کتاب کا نام

القول المعتمد ان سیدنا معاویۃ مجتہد

تحقیق سمیر القادری الحنفی

ترتیب نعمان علی عطاری

مسلک حق اہلسنت وجماعت

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قارئین آجکل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عام سادہ لوح عوام کو دھوکہ دینے کے لیئے کچھ لوگ طرح طرح کے حربے استعمال کررہے ہیں. ہم نے فیس بک پر دیکھا کہ کچھ لوگ لفظ بغاوت کو لیکر خال المؤمنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت کہ بالکل برعکس ہے تاریخ دمشق ج۵۹ میں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مطالبہ کررہے تھے اور جو ہم نے اس کے اندر اسکین لگائے ہیں وہ اسی کو واضح کررہے ہیں انشاءاللہ قارئین اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے

امام ابو بکر اسماعیلی لکھتے ہیں
آئمہ حدیث صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں
اور بُری باتیں ان پر نہیں تھوپتے



اعتقاد أئمة الحديث

الرازق الله

وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة ، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه ، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام ، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به .

الله خالق الشياطين ووساوسهم

ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم ، وأن الشيطان يتخبط الإنسان .(1)

السحر والسحرة

وأن في الدنيا سحرا وسحرة ، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله ، معتقدا له ، نافعا ضارا بغير إذن الله .

مجانبة البدعة

ويرون مجانبة البدعة والآثام ، والفخر ، والتكبر ، والعجب ، والخيانة ، والدغل ،(2) والسعاية ،(3) ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها ، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم .

تعلم العلم

ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه ، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره ، وسماع سنن الرسول ﷺ وجمعها والتفقه فيها ، وطلب آثار الصحابة .

الكف عن الصحابة

والكف عن الوقيعة فيهم ، وتأول القبيح عليهم ، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عزّ وجل .

---

(1) كما قال تعالى : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس البقرة ٢٧٥ .

(2) الدغل : هو الذي يبغي الشر ، انظر تهذيب اللغة ٨ / ٧١ .

(3) الوشاية والنميمة بين الناس .

١٥

صحابہ کے بارے میں
اپنی زبان بند رکھو

اعتقاد أئمة الحديث

أبو بكر الإسماعيلي

دعاگو

نعمان عطاری

علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

امام قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور جو ان کے آپسی معاملات تھے اس میں پڑنے سے بچا جائے



ويتوجه فى هذا الحديث الكلام فى دماء الصحابة وقتالهم . وللناس فى ذلك غلو وإسراف ، واضطراب من المقالات واختلاف . والذى عليه جماعة أهل السنة والحق :

---

(١) أبو داود ، ك الفتن ، ب النهى عن القتال فى الفتنة برقم (٤٢٤٨) .

(٢) من ح . (٣) البخارى ، ك الديات ، ب قول الله ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ ٩ / ٥ .

(٤) من ح . (٥) الأنعام : ٧٩ .

(٦) سبق فى ك الإيمان ، الأحاديث من (٢٠٣ ــ ٢٠٨) .

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا القَاتِلُ ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » .

حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم ، وطلب أحسن التأويل لفعلهم ، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية [والمجاهرة][1] بذلك ، وطلب سحق[2] للدنيا ، بل كل عمل على شاكلته ، ويحسب ما أداه إليه اجتهاده ، لكن منهم المخطئ فى اجتهاده ومنهم المصيب ، وقد رفع الله [الحجر][3] الحرج عن المجتهد المخطئ فى فروع الدين ، وضعف الأجر للمصيب . وقد وقف الطبرى وغيره عن تعيين المحق منهم .

وعند الجمهور أن عليا وأتباعه مصيبون فى ذبهم عن الإمامة ، وقتالهم من نازعهم فيها ، إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنيا حينئذ وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر فى طلبه قتلة عثمان الذين فى عسكر على ، وأنهم لا يقطعون [4]بيعة ولا يعتقدون[5] إمامة ، نقضوا ذلك ولم يطلبوا سوى ذلك ، ولم ير هو دفعهم ، إذ الحكم فيهم للإمام وكانت الأمور لم تستقر استقرارها ، ولا اجتمعت الكلمة بعد وفيهم عدد ، ولهم شوكة ومنعة ، ولو أظهروا تسليمهم أولا والقصاص منهم لاضطرب الأمر ، وانبت الحبل ، ومنهم جماعة لم يروا الدخول فى شىء من ذلك ، محتجين بنهى النبى ﷺ عن التلبس بالفتن ، والنهى عن قتال أهل الدعوة ، كما احتج به أبو بكرة فى كتاب مسلم فى هذا الحديث على الأحنف ، وعذروا الطائفتين بتأويلهم ، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها . وأما غير أهل الحق فلهم فى ذلك مقالات بشعة شنيعة يستغنى عن ذكرها .



شرح صحيح مسلم للقاضي عياض

المسمّى

إكمال المعلم بفوائد مسلم

للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

ت ٥٤٤ هـ

تحقيق

الدكتور يحيى إسماعيل

الجزء الثامن

دعاگو

نعمان عطاری

مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں **امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں کہ عمر بن عبد العزیز؟**

تو فرمایا نبی پاک ﷺ کی معیت میں جو امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی گرد بھی کئی مرتبہ عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے



مکتوب نمبر (٦٦)

یہ مکتوب بھی خانِ اعظم کی طرف صادر فرمایا۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی مدح وثنا اور اس طریقہ صحابہ کرام ان کے صاحب اوران پر صلوٰۃ وسلام کے ساتھ مناسبت اور صحابہ کرام کی باقی تمام دوسروں پر افضلیت کے بیان ہیں اگرچہ اویس قرنی یا عمر بن عبدالعزیز مروانی ہی کیوں نہ ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی.

حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ سرّہم کا طریقہ نہایت کے ابتداء میں اندراج پر مبنی ہے۔ اور یہ طریقہ بعینہٖ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں (صحابہ کرام) کو حضور سرور عالم وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ میسر آ گیا کہ اولیاء امت کو نہایۃ النہایہ میں جا کر اس کا کمال کا تھوڑا سا حصہ ہاتھ آتا ہے۔ لہٰذا وحشی رحمۃ اللہ علیہ قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ایک ہی مرتبہ ابتدائے اسلام میں صحبت سید اولین وآخرین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کا شرف نصیب ہوا۔ اویس قرنی سے جو خیر التابعین سے افضل قرار پایا۔ اور وحشی کو حضور خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی اول صحبت میں جو کچھ میسر آیا اویس قرنی کو اپنی خصوصیات کے باوجود انتہاء میں میسر نہ ہوا۔ تو لازمی طور پر زمانوں میں بہترین زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ کلمہ ثُمَّ نے دوسروں کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اور ان کے درجے کی دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لے

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سرہٗ سے سوال کیا: ''امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟'' تو آپ نے جواب دیا ''وہ غبار جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی مرتبے عمر بن عبدالعزیز سے افضل و بہتر ہے۔ تو ناچار ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب قرار پایا۔ اور اس طریقہ (نقشبندیہ) عالی کی فضیلت و بزرگی دوسرے تمام سلسلوں پر صحابہ کرام کے زمانے کی دوسروں کے زمانہ پر فضیلت کی طرح مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکی ہے۔

وہ جماعت جسے آغاز ہی میں کمال فضل سے حصہ عطا کر دیا گیا ہو ان کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا


یعنی اردو ترجمہ
مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ
جلد اول
دعاگو
نعمان عطاری
تالیف
مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی
مولانا محمد سعید احمد نقشبندی

محدث امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ معاویہ کا ربّ
ربِّ رحیم ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدِ مقابل (علی) کرم اللہ وجہہ الکریم کریم ہے
تو ان دونوں کے درمیان کیوں گھستا ہے۔



معاوية بن صخر أبي سفيان بن حرب ١٤١

نا يَحْيَىٰ بن يوسف الزَّمِّي(١) قال :

رأيت عَلي بن أبي طالب في المنام فقال لي : يا يَحْيَىٰ، ادعُ لي مُعَاوِيَة، فقلت : يا أمير المؤمنين، وما تصنع بمُعَاوِيَة؟ قال : أزوّجه ابنتي، وأتزوج ابنته، وذكر كلاماً، قال يَحْيَىٰ بن يوسف : فحدّثت به عيسى بن يونس فاستحسنه .

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طَاهِر، أنا أبو الحَسَن عُبَيْد الله بن مُحَمّد بن إسْحَاق بن مُحَمّد بن يَحْيَىٰ بن مندة، أنا أبو بكر عَبْد العزيز بن عَبْد الواحد بن مُحَمّد بن هُدَة(٢)، قال : قال أبو عَلي شعبة الحافظ أحْمَد بن الحَسَن قال أبو القاسم ابن أخي أبي زُرعة الرازي(٣) :

جاء رجل إلى عمي أبي زرعة فقال له : يا أبا زُرعة، أنا أبغض مُعَاوِيَة، قال : لِمَ؟ قال : لأنه قاتل عَلي بن أبي طالب، قال : فقال له عمّي : إنّ ربّ مُعَاوِيَة ربٌّ رحيم، وخصمَ معاوية خصمٌ كريم، فأيش دخولك أنت بينهما . رضي الله عنهم أجمعين ..

أَخْبَرَنا أبو الحَسَن بن قُبَيس، نا ـ وأبو منصور بن خَيْرُون، أنا ـ أبو بكر الخطيب، أَخْبَرَني الحَسَن بن مُحَمّد الخلاّل، نا عَبْد الله بن عُثْمَان الصفّار، نا أبو القاسم إسْحَاق بن إبْرَاهيم بن أزرة الفقيه، حدّثني أبي قال : حضرت أحْمَد بن حنبل وساله رجل عما جرى بين عَلي ومُعَاوِيَة، فأعرض عنه، فقيل له : يا أبا عَبْد الله، هو رجل من بني هاشم، فأقبل عليه فقال : اقرأ : **﴿تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون﴾**(٤) (٥) .

أَخْبَرَنا أبو الحَسَن السلمي، أنا أبو الحَسَن بن أبي الحديد، أنا جدي ، أنا أبو الدحداح، نا أحْمَد بن عَبْد الواحد، نا مُحَمّد بن كثير، عَن الأوزاعي(٦) قال :

سأل رجل الحَسَن عن عَلي وعُثْمَان، فقال : كانت لهذا سابقة ، [لهذا سابقة](٧) وكانت

---

(١) بدون إعجام بالأصل «ر»، و«ز»، و«م»، وفوقها في م ضبة، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٩.

(٢) [illegible]

(٣) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٩ من طريق ابن عساكر .

(٤) [illegible]

(٥) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٩ .

(٦) رواه الذهبي في سير الأعلام ٣/ ١٤٢ من طريقه، وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٩ .

(٧) زيادة اقتضاها السياق عن سير الأعلام والبداية والنهاية .



تاريخ
مدينة دمشق

وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

تصنيف

الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن
ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي

المعروف بابن عساكر
٤٩٩ هـ - ٥٧١ هـ

دراسة وتحقيق

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي

الجزء التاسع والخمسون
معالي - مغيث

دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع

امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں برحق نظر جس پر اہلسنت قائم ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین ہونے والے اختلافات کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مجتھد تھے



٢ ــ كتاب الإيمان / باب (٢٢) ٢٢٥

بيان المعاني والأحكام: قوله: «أنصر هذا الرجل» يعني: علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ووقع في رواية الإسماعيلي يعني: علياً، ووقع للبخاري في الفتن: «أريد نصرة ابن عم رسول الله ﷺ». وقال الكرماني: وقيل: يعني عثمان، رضي الله عنه، قلت: هذا بعيد، ويرده ما في الصحيح. قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» وفي الرواية الأخرى: «إذا توجه المسلمان»، أي: إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه، أي: ذاته وجملته. قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» قال عياض وغيره: معناه إن جازاهما الله تعالى وعاقبهما كما

... ها مما

جل،

هما

جون

قوله

لف

هذا

الحديث، وبحديث أبي بكرة في (صحيح مسلم ... إنها ستكون فتن...» الحديث.

وقال هؤلاء: لا يقاتل، وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله، و... وز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكرة وغيره. وفي (طبقات ابن سعد مثله عن أبي سعيد

قال الأولون لظهر الفساد واستطالوا، والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وحسن الظن بهم، والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، فمنهم المخطىء في اجتهاده والمصيب، وقد رفع الله الحرج عن المجتهد المخطىء في الفروع، وضعف أجر المصيب، وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم، وصرح به الجمهور وقالوا: إن علياً، رضي الله عنه، وأشياعه كانوا مصيبين إذ كان أحق الناس بها، وأفضل من على وجه الدنيا حينئذ.

بها، وأفضل من على وجه الدنيا حينئذ.

عقیدہ اہلسنت صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے اجتہاد پر مبنی تھے


عُمدة القاري
شرح
صحيح البخاري
للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني
المتوفى سنة ٨٥٥ هـ
ضبطه وصححه
عبد الله محمود محمد عمر
طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث
حسب ترقيم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف

دعا کا طالب
نعمان عطاری

اعلٰی حضرت فرماتے ہیں امیر معاویہ اول ملوک اسلام ہیں کیونکہ اس کا اشارہ تورات مقدس میں موجود ہے اور ان کی سلطنت رسول اللہ ﷺ کی سلطنت ہے ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے ان کو ایذا دینا اللہ تعالٰی کو ایذا دینا ہے.



حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنتِ محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں اسی کی طرف تورۃ مقدس میں اشارہ ہے کہ:

مولدہ بمکۃ ومھاجرہ طیبۃ وملکہ بالشام۔

وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

(تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی) وغیرہم رضوان اللہ تعالٰی علیہم الی یوم الدین کو خارج کردیا اور تمہارے کان میں (اللہ کے رسول نے چپ چاپ) کہہ دیا کہ اصحابی سے ہماری مراد اور آیت میں ضمیر ھم کے مصداق ان لوگوں کے سوا (اور دوسرے صحابہ) ہیں جو تم ان کے اے خوارج (اور اے روافض) دشمن ہوگئے۔ اور عیاذًا باللہ (انہیں) لعن طعن سے یاد کرنے لگے (اور شومئ بخت سے) نہ یہ جانا کہ یہ دشمنی، درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے دشمنی ہے اور ان کی ایذاء حق تبارک وتعالٰی کی ایذاء (اور جہنم کا دائمی عذاب جس کی سزا، مگر اے اللہ! تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت وجماعت پر، جس نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے سب ہم نشینوں اور گلستانِ صحبت کے گل چینوں کو (ہمیشہ ہمیش کسی استثناء کے بغیر) انکو تعظیم واجلال (اور نظر تکریم وتوقیر) سے دیکھنا اپنا شعار ودثار (اپنی علامت ونشان) کرلیا اور سب کو چرخ ہدایت کے ستارے اور فلک عزت کے

[illegible]

۵۱۸، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب تحریم سب الصحابۃ قدیمی کتب خانہ کراچی ۲/ ۳۱۰، سنن ابن ماجۃ فضل اہل بدر ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ص ۱۵، سنن ابی داود کتاب السنۃ باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ آفتاب عالم پریس لاہور ۲/ ۲۸۳

حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنتِ محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں اسی کی طرف تورۃ مقدس میں اشارہ ہے کہ:

مولدہ بمکۃ ومھاجرہ طیبۃ وملکہ بالشام۔

وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

(تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی) وغیرہم رضوان اللہ تعالٰی علیہم الی یوم الدین کو خارج کردیا اور تمہارے کان میں (اللہ کے رسول نے چپ چاپ) کہہ دیا کہ اصحابی سے ہماری مراد اور آیت میں ضمیر ھم کے مصداق ان لوگوں کے سوا (اور دوسرے صحابہ) ہیں جو تم ان کے اے خوارج (اور اے روافض) دشمن ہوگئے۔ اور عیاذًا باللہ (انہیں) لعن طعن سے یاد کرنے لگے (اور شومئ بخت سے) نہ یہ جانا کہ یہ دشمنی، درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے دشمنی ہے اور ان کی ایذاء حق تبارک وتعالٰی کی ایذاء (اور جہنم کا دائمی عذاب جس کی سزا،

فتاوٰی رضویّہ

مع تخریج وترجمہ عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہٗ

۲۹

رضا فاؤنڈیشن

جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ لاہور

پاکستان (۵۴۰۰۰)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

اہلسنت وجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی بنا پر کسی بھی صحابی پر طعن کرنا حرام ہے



جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق ، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ماوقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب الا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطىء فى الاجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتى بيانه فى كتاب الأحكام ، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك ، ولا يرد على ذلك منع أبى بكرة الأحنف من القتال مع على لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبى بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه ، وسيأتى فى الباب الذى بعده مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى . قال الطبرى : لو كان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل الفسوق سبيلا الى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبى الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ

تمام صحابہ کرام مجتہد تھے اس لیئے
ان جنہوں نے اجتہاد پہ غلطی کی ان کو ایک اجر ملے گا

٣٤ ٩٢ - كتاب الفتن

جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق ، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ماوقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا فى تلك الحروب الا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطىء فى الاجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين كما سيأتى بيانه فى

فأخرج الطبرى بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال ، قلت له أرأيت اعتزال الأحن
ما كان ؟ قال : سمعت الأحنف قال : حججنا فاذا الناس مجتمعون فى وسط المسجد - يعنى النبوى - وفيهم على والز
وطلحة وسعد إذ جاء عثمان ، فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه ، قال الأحنف : فلقيت طلحة والزبير فقلت
انى لا أرى هذا الرجل - يعنى عثمان - إلا مقتولا ، فمن تأمرانى به ؟ قالا : على ، فقدمنا مكة فلقيت عائشة و

دعا کا طالب
نعمان عطاری

فتح الباري

بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

للإمام الحافظ
أحمد بن علي بن حجر
العسقلاني
٧٧٣ - ٨٥٢

رقم كتبه و
واستقصى أطرافه ، و
محمد فؤا

المكتبة السلفية

رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ابن خلدون لکھتے ہیں حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو
معاملہ ہوا اس میں ان کا طریقہ اجتہاد تھا اور ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں تھا



مقدمہ ابن خلدون ۳۳۵ حصہ اول

دُنیا کی کثرت اسراف کی حیثیت سے قابل مذمت ہے: اگرچہ دنیا کی کثرت قابل مذمت ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ اسراف ہو اور انسان درمیانی راہ سے ہٹ جائے اور اگر لوگ درمیانی راہ پر ہوں اور ان کے مصارف حق کی راہ میں اور صحیح طریقوں پر ہوں تو ان کے لیے یہی دنیا کی کثرت راہِ حق پر اور آخرت کے حاصل کرنے پر مددگار ثابت ہوگی پھر

... اس کی جگہ لے لی یعنی ان

جب رفتہ رفتہ ...

... یہ باطل کے ارادے سے قائم نہ تھے بلکہ حق کے ارادے

مسلمانوں کا تھا کہ اپنی اپنی رائے کے مطابق سب حق پر قائم تھے باطل کی طرف کوئی بھی جھکا ہوا نہ تھا فرق اتنا تھا کہ کسی کا

علیہم الرضوان
تمام صحابہ کرام
عادل ہیں

دعا کا طالب
نعمان عطاری


مقدّمہ
ابنِ خلدون
فلسفہ تاریخ تمدن، موارض تمدن پر جامع بحث
اور بصیرت افروز تاریخ نکات کا بیان
رئیس المورخین علامہ
نفیس اکی

فتنہ کے زمانے میں صحابہ کا طریقہ حق و اجتہاد تھا: جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان فتنہ نے سر اٹھایا جو عصبیت کا لازمی نتیجہ تھا تو اس میں بھی صحابہ کرام کا طریقہ حق و اجتہاد تھا ان کی باہمی جنگ کسی دنیوی غرض سے یا باطل کو ترجیح دینے کے لیے یا کینہ و عداوت کی وجہ سے نہ تھی جیسا کہ بے ادب اور وہمی حضرات گمان کرتے ہیں اور بے دین و ملحد یہی رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں بات یہی تھی کہ حق میں ان کا اجتہاد مختلف تھا اور اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق ہر ایک دوسرے کو غلطی پر سمجھتا تھا اور وہ حق ہی کے لیے لڑتے تھے اگرچہ حضرت علیؓ کا اجتہاد صحیح تھا اور حضرت معاویہؓ کا اجتہاد غلط تھا۔ تاہم جنگ پر حضرت معاویہؓ باطل کے ارادے سے قائم نہ تھے بلکہ حق کے ارادے سے قائم تھے۔ یہی حال اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کا تھا کہ اپنی اپنی رائے کے مطابق سب حق پر قائم تھے باطل کی طرف کوئی بھی جھکا ہوا نہ تھا فرق اتنا تھا کہ کسی کا اجتہاد صحیح تھا اور کسی کا غلط اور مجتہد کو غلطی پر بھی ثواب ملتا ہے۔

عرفان شاہ مشہدی لکھتے ہیں گستاخِ صحابہ نہ صرف خود کو سنی کہلواتے ہیں بلکہ سنیوں کے پیر مولوی بنے ہوئے ہیں ورنہ زمانہ سلف میں حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرنے والا غالی شیعہ سمجھا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ



اہلِ حق کی نظر میں 13 امیر معاویہ

کی طہارت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاص اور اولیاء کاملین کے مقام کی حقیقی محافظ و پاسبان ہے مگر دورِ حاضر کے اہل سنت و جماعت کی مذہبی کمزوری اور دین سے لاتعلقی کی بنا پر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ نہ صرف خود کو سُنی کہلواتے ہیں بلکہ سنیوں کے پیر، مولوی اور ائمہ مساجد بنے ہوئے ہیں، ورنہ زمانہ



کی طہارت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اخلاص اور اولیاء کاملین کے مقام کی حقیقی محافظ و پاسبان ہے مگر دورِ حاضر کے اہل سنت و جماعت کی مذہبی کمزوری اور دین سے لاتعلقی کی بنا پر، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ نہ صرف خود کو سُنی کہلواتے ہیں بلکہ سنیوں کے پیر، مولوی اور ائمہ مساجد بنے ہوئے ہیں، ورنہ زمانہ سلف میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر طعن کرنے والا گستاخ اور غالی شیعہ سمجھا جاتا تھا۔

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسماء الرجال کی مشہور کتاب میزان الاعتدال، ج1 ص6 پر لکھتے ہیں۔

”زمانہ سلف میں غالی شیعہ وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام پر نکتہ چینی اور ان کی بد گوئی کرتا تھا۔“



اِذَا رَاَیْتُمُ الَّذِیْنَ یَسُبُّوْنَ اَصْحَابِیْ فَقُوْلُوْا لَعْنَۃُ اللّٰہِ عَلٰی شَرِّکُمْ
دعاگو
نعمان علی عطاری
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہلِ حق کی نظر میں
فضائل از قرآن و حدیث
اکابر اہلسنت کے نظریات
مطاعن کا تحقیقی رد
علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی

حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا
مولا علی جلدی جلدی دروازے سے نکلے تو کہا رب کعبہ کی
قسم میرے لیئے فیصلہ کر دیا گیا اور پھر حضرت امیر معاویہ
جلدی جلدی ان کے پیچھے نکلے تو کہا میرے رب نے مجھے
بخش دیا گیا

(کیمیائے سعادت ص701)



﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ﴾ (آل عمران)

"اور تو گمان نہ کر ان لوگوں کو مُردہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے بلکہ وہ اپنے پروردگار کے یہاں زندہ ہیں۔ انھیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس چیز پر خوش ہیں جو اللہ اپنے فضل سے انھیں عطا کرتا ہے۔"

خواب کے ذریعہ مُردوں کے معلوم ہونے والے حالات : جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گویا اس نے مجھے جاگتے میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ؓ نے کہا ہے کہ میں نے رسول مقبول ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ مجھ سے ناراض سے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے کونسی خطا سرزد ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزہ میں اپنی اہلیہ کو بوسہ نہ دو۔ پھر حضرت عمر ؓ نے عمر بھر ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ روزہ میں بیوی کا بوسہ حرام نہیں لیکن نہ لینا اولیٰ ہے۔ صدیق حضرات سے ایسی باریک باتوں میں درگزر نہیں کیا جاتا اگرچہ دوسروں سے کر لیں۔ حضرت عباس ؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ؓ سے محبت تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میں نے چاہا کہ انھیں خواب میں دیکھوں۔ سال بھر کے بعد میں نے دیکھا کہ آنکھیں مل رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اب فراغت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالٰی کا رحم و کرم نہ ہوتا تو بڑا خطرہ تھا۔ حضرت عباس ؓ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو خواب میں دیکھا' دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا' میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں مگر پیر کے دن چونکہ حضور ﷺ پیدا ہوئے تھے اور ان کی خبر ولادت سے مجھے خوشی ہوئی تھی اور اس خوشی میں میں نے غلام آزاد کیا تھا اس لیے اس رات مجھ پر عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ؓ آپ کے پاس بیٹھے تھے اور میں بھی اس محفل میں حاضر تھا۔ اچانک حضرت علی ؓ اور حضرت معاویہ ؓ کو حاضر کیا گیا اور انھیں ایک مکان کے اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالٰی وجہہ کو دیکھا کہ باہر نکلے اور فرمانے لگے : قضی لی ورب الکعبۃ یعنی ربِّ کعبہ کی قسم میرا ہی حق ثابت ہوا۔ پھر حضرت امیر معاویہ ؓ باہر تشریف لائے اور فرمایا : غفر لی ورب الکعبۃ بخدا میں بخش دیا گیا۔ حضرت ابنِ عباس ؓ' حضرت حسین ؓ کی شہادت سے قبل ایک روز جو سو کر اٹھے تو کہنے لگے : ﴿ انا للہ وانا الیہ راجعون ﴾ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ حضرت حسین ؓ کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا' آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا' خون سے بھرا ہوا گلاس آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اے ابنِ عباس دیکھا میری امت نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے بیٹے کو قتل کر دیا یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں داد خواہی کے لیے اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ چوبیس دن کے بعد حضرت حسین ؓ کے قتل کی خبر آئی۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق ؓ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ہمیشہ زبان سے اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے بڑے کام درپیش ہیں' فرمایا۔ ہاں!



علیہم الرضوان امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ صحابہ کرام کی تعظیم کرنا اور ان پر طعن کرنے سے اجتناب کرنا واجب ہے



المبحث الخامس :

في فضل الصحابة ، يجب تعظيمهم والكف عن مطاعنهم ، فان الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة منها[1] قوله تعالى : ﴿ والسابقون[2] الاولون ﴾[3] من المهاجرين والانصار ، وقوله : ﴿ يومَ لا يُخزي اللهُ[4] النبيَّ والذين آمنوا معه ﴾ وقوله : ﴿ والذين معه أشداء[5] على الكفار رحماء بينهم ﴾[5] ، وقال عليه السلام[6] « لو أنفق أحدكم ملء الارض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه »[7] ، وقال : « أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم ، اهتديتم »[8] ، وقال : « الله[9] الله في أصحابي ، لا تتخذوهم بعدي غرضاً ، من أحبَّهم فبحبي أحبهم ، ومن بغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني ، فقد آذى الله ، ومن آذى الله ، فيوشك أن يؤخذه »[10] وما نقل من المطاعن فله محامل وتأويلات ، ومع ذلك

فلا تعادل ما ورد في مناقبهم ، ويحكى من آثارهم نفعنا الله بحبهم أجمعين ، وجعلنا الله[1] لهديهم متبعين وعصمنا من زيغ الضالين ، وجعلنا يوم الدين في عداد الهادين[2] بفضله العظيم ولطفه العميم ، إنه سميع قريب[3] مجيب[4] .

---

(١) ج : فنها .

(٢) ب ، ج ، د : ا

(٣) سورة التوبة ، آ

(٤) سورة التحريم ، آية ٨ .

(٥) سورة الفتح ، آية ٢٩ .

(٦) أ : صلى الله عليه وسلم ، ب : م ، د : عليه الكم .

(٧) الحديث : « لا تسبوا أصحابي ، فلو ان أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ... » أخرجه البخاري من أبي سعيد الخدري . باب فضائل الصحابة برقم ٣٦٧٣ .

(٨) رواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر وغيره ، وأسانيده كلها ضعيفة . قال عنه ابن حنبل : لا يصح ! وقال البزار : منكر ! وقال ابن حزم في الرسالة الكبرى : مكذوب موضوع باطل . وذكره السيوطي في جمع الجوامع برقم (٢٧/٣٣٤١) . وقال : منقطع . والبيهقي في الاعتقاد وقال عنه : رويناه في حديث موصول باسناد غير قوي .

(٩) ـ د .

(١٠) أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود ، وله شواهد في حديث الشيخين عن أبي سعيد . وذكره الغزالي في الاحياء .



طوالع الأنوار

من مطالع الأنظار

للقاضي ناصر الدين البيضاوي

المتوفى سنة ٦٨٥هـ

سگِ درِ صحابہ و اہل بیت

تحقيق وتقديم

عباس سليمان

نعمان عطاری

دار الجيل
بيروت

المكتبة الأزهرية للتراث
القاهرة

Bibliotheca Alexandrina

علیہ الرحمہ

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں جمہور اہلسنت کا مؤقف ہے کہ مولا علی حق پر تھے اور دوسرے اصحاب کی خطاء اجتہادی تھی اسی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام ہے

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین



مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ ۱۸۷ دفتر اول مکتوب ۲۵۱

جاننا چاہئے کہ پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے اصحاب سب بزرگ ہیں لہذا تمام (صحابہ) کو بزرگی سے یاد کرنا چاہئے ـــــ خطیب بغدادیؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَصْهَارًا وَأَنْصَارًا فَمَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَهُ اللّٰهُ وَمَنْ آذَانِي فِيهِمْ آذَاهُ اللّٰهُ (تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لئے اصحاب کو پسند کیا اور ان میں سے بعض کو میرے لئے قرابت دار اور مددگار پسند کیا پس جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں مجھے ایذا دی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایذا دی) ـــــ اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی طرف سے لعنت ہے) ـــــ اور ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي أَجْرَؤُهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِي (میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں) ـــــ

اور ان لڑائی جھگڑوں کو جو اُن کے درمیان واقع ہوئے ہیں نیک نیتی پر محمول کرنا چاہئے اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہئے کیونکہ ان کی مخالفتیں اجتہاد و تاویل پر مبنی تھیں نہ کہ ہوا و ہوس پر، جیسا کہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے ـــــ لیکن جاننا چاہئے کہ حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خلاف لڑنے والے خطا پر تھے اور "حق" حضرت امیرؓ کی جانب تھا۔ لیکن چونکہ یہ خطا خطائے اجتہادی ہے اس لئے ملامت سے دور اور مواخذہ سے بری ہے، جیسا کہ شارح مواقف آمدی

نعمان علی عطاری

بحمد اللہ ہر آں چیز کہ خاطر می خواست
آخر آمد ز پس پردۂ تقدیر پدید

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ السامی

کے

دفتر اول (حصہ دوم)

(مکتوب ۱۷۳ تا ۳۱۳)

کا

ملا علی قاری فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ عدل اہل فضل اور خیار صحابہ میں سے ہیں رہی بات ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ سارے معاملات اجتہاد پر مبنی تھے اور وہ سب اپنے اجتہاد کو درست اور جائز ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان صحابہ کو مجتہدانہ مرتبہ حاصل تھا

مرقاۃ شرح مشکوۃ اردو جلد یازدھم ۳۱۲ کتاب المناقب

صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے سب صحابہ اپنے آپ کو درست سمجھتا تھا

افضلیت صحابہ

شرح السنہ میں ابو منـ اع ہے کہ صحابہ میں
سب سے افضل خلفاء اربعـ دیق اکبر ہیں، ان
کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر سب سے افضل
وہ تمام صحابہ ہیں، جن کو عشرہ کے بعد بیعت رضوان
میں شریک صحابہ ہیں، ان کے بعد وہ انصار صحابہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت ولی اور بیعۃ الاعقبۃ الثانیہ کے موقع پر مکہ

واضح رہے کہ حضرت معاویہؓ عدول، اہل فضل اور خیار صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی برا خیال رکھنا یا ان کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو، اسی طرح ممنوع ہے، جس طرح دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں

رہی یہ بات کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو باہمی نزاع ہوا، یا باہمی جنگ وجدال کی نوبت آئی، تو اس پر بحث وتمحیص کرنا اور اس سے کوئی نتیجہ نکال کر کسی کی تنقیص کرنا ہمارا مقام نہیں۔

وہ سارے معاملات ان کے اپنے اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے ان معاملات میں نفسانی تقاضوں، یا دنیاوی اعراض کے تحت شرکت کی ہو۔ وہ سب صحابہ اپنے اپنے موقف کے درست اور جائز ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، اور اپنی باہمی لڑائیوں وتنازعات کی تاویل کرتے تھے، چونکہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو مجتہدانہ مقام ومرتبہ حاصل تھا، اور مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کا حق رکھتے تھے، اس لئے ان کے ان تنازعات کی بناء پر ان میں سے کوئی عدول کے مرتبہ سے خارج نہیں ہوگا، اور نہ اس کی حیثیت ومقام میں کوئی نقص آئے گا۔ کیونکہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو مجتہدانہ مقام ومرتبہ حاصل تھا جیسا کہ ان کے بعد آئمہ مجتہدین کو مسائل میں مجتہدانہ مرتبہ حاصل رہا۔ اہل سنت والجماعۃ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے بارے میں زبان کھولتے وقت محتاط رہا جائے، ان کے حق میں منہ سے وہی بات نکالی جائے جو تعریف اور بھلائی کی ہو۔

نعمان علی عطاری
11
مرقاۃ المفاتیح
شرح اردو
مشکوۃ المصابیح
للعلامۃ الشیخ القاری علی بن سلطان
مترجم: مولانا ابو محمد
KitaboSunnat.com
مکتبۃ رحمانیۃ

اہلسنت کا مزہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جنگوں کے متعلق کف لسان کرنا اور ان کے متعلق حسن ظن رکھنا واجب ہے اور انجنگوں کے متعلق یہ تاویل ہے کہ وہ سب مجتہد تھے



اہلسنت کا مزہب ہے کہ مشاجرات
صحابہ پر اپنی زبان بند رکھیں کیونکہ وہ سب مجتہد تھے

صحابہ کرام کی باہمی جنگوں کے متعلق اہل سنت کا موقف

حدیث نمبر ۱۲۳ میں ہے: جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں

؎ سید ابو الاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ، تفہیم القرآن ج ۵ ص ۷۵-۷۷، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور۔
؎ علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المعلم ج ۹ ص ۲۳۹-۲۴۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

جلد سابع

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

Ataunnabi.com

نعمان علی
عطاری

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
اور رسول تم کو جو (احکام) دیں ان کو قبول کرو اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے باز رہو۔

شرح صحیح مسلم

جلد سابع

بر، قدر، علم، ذکر، توبہ، صفۃ المنافقین

تصنیف
علامہ غلام رسول سعیدی
شیخ الحدیث دار العلوم نعیمیہ

ناشر
فرید بک سٹال (رجسٹرڈ)

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جو مسلمان بغیر کسی تاویل اور دلیل کے آپس میں جنگ کریں، مثلاً عصبیت کی بنا پر جنگ کریں تو وہ جہنم کے مستحق ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے، یہی اہل حق کا مذہب ہے، ا صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں، اہل سنت کا مذہب یہ ہے، کہ صحابہ کرام کی جنگوں کے متعلق کف لسان کرنا اور ان کے متعلق حسن ظن رکھنا ضروری ہے اور ان کی جنگوں کے متعلق یہ تاویل ہے کہ وہ سب مجتہد تھے، انھوں نے کسی معصیت یا حصول دنیا کا قصد نہیں کیا، بلکہ ہر فریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے اس لیے اس سے قتال کرنا واجب ہے تاکہ وہ امر اللہ کی طرف رجوع کرے، ان میں سے بعض حق اور صواب پر تھے اور بعض خطأ پر تھے اور وہ اپنی خطأ میں معذور تھے کیونکہ وہ اجتہادی خطأ تھی، اور مجتہد کو جب خطأ لاحق ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق اور صواب پر تھے۔ ان جنگوں کے مقدمات اور طرفین کے دلائل مشتبہ تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں حیران رہی، اور وہ دونوں فریقوں سے الگ رہی اور انھوں نے کسی کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اگر انھیں کسی جانب صحت اور صواب کا یقین ہوتا تو وہ اس کی مدد سے کبھی گریز نہ کرتے بلکہ

؎ علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ، اکمال اکمال المعلم ج ۹ ص ۲۳۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

مفتی غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں جمہور مسلمین کا اتفاق ہے کہ مولا علی و معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں علی حق پر تھے اور معاویہ کی خطا اجتہادی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم اجمعین



نعمۃ الباری فی شرح صحیح البخاری (جلد پنجم) 838 ٥٦- کتاب الجہاد والسیر

ہوگی اور اگر امام ان باغیوں سے قتال کرے تو مسلمان اس کی حمایت میں قتال نہ کریں اور

رضی اللہ کی حمایت میں قتال کو ترک کر دیا حالانکہ دین اور عقل میں ان کا مقام کسی سے مخفی

اور ہر فریق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مد مقابل باغی گروہ ہے اور اہل علم کے نزدیک بھی

رت علی کی حمایت میں قتال نہیں کیا' وہ اس پر ناراض نہیں ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کو

تھی' لیکن انہوں نے ان کی حمایت میں قتال

شوریٰ سے مشورہ کرے

وت ١٣٢٣ھ)

دیا' لیکن اس
اتفاق ہے کہ اس
ہوئی تھی' لیکن وہ
ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا
مخالف باغی ... قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک
حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی حیثیت ... جب کہ یہ صحیح نہیں ہے' اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم علامہ المہلب
کی اس غلطی سے قارئین کو آگاہ کریں۔

امیر کی اطاعت [illegible]

جمہور مسلمین کا اتفاق ہے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امیر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی جس پر آپ اجر کے مستحق ہیں



حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی' اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ برحق تھے

میں کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ بعض صحابہ نے اس جنگ میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا' لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی حیثیت برابر تھی کیونکہ جمہور مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس مناقشہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے صائب تھی اور وہ خلیفہ برحق تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطاء لاحق ہوئی تھی' لیکن وہ اس میں اپنے اجتہاد کی وجہ سے معذور ہیں' علامہ مہلب نے جو یہ لکھا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا مخالف باغی ہے' اور اہل علم کے نزدیک یہی عصبیت میں ہوتا ہے۔ علامہ مہلب کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کی حیثیت برابر تھی' جب کہ یہ صحیح نہیں ہے' اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم علامہ المہلب کی اس غلطی سے قارئین کو آگاہ کریں۔



وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ لَا تُحْصُوْھَا
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے (ابراہیم ۳۴)

نِعْمَۃُ الْبَارِی
فِی
شَرْحِ صَحِیْحِ الْبُخَارِی

نعمان علی عطاری

جلد پنجم

الاحادیث: ۳۰۹۰ —

کتاب المساقاۃ، کتاب فی الاستقراض، کتاب الخصومات، کتا
کتاب الشرکۃ، کتاب الرھن، کتاب العتق، کتاب المکاتب
کتاب الشہادات، کتاب الصلح، کتاب الشروط، کتاب

تصنیف
علامہ غلام رسول س
شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیـ

ناشر
فرید بک سٹال ۳۸

امام اصفہانی فرماتے ہیں لفظ باغی کے معنیٰ ہیں کسی چیز کی طلب میں میانہ روی اختیار کرنا حد سے تجاوز کرنا وغیرہ



بیزار ہونا کے ہیں۔ یہ حُبّ کی ضد ہے۔ جس کے معنی کسی پسندیدہ چیز کی طرف دل کا منجذب ہونا کے ہیں، کہا جاتا ہے۔ بَغِضَ (س) اَلشَّیْءُ بُغْضًا وَبَغْضَتُہٗ (ن) بَغْضَاءَ قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَاَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۶۴:۵) اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔

﴿ اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۹۱:۵) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے۔ اور حدیث پاک میں ہے ❶ (۳۷) اِنَّ اللّٰہَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ. بیشک اللہ تعالیٰ بدکلام گالی دینے والے سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں بغض کا لفظ بول کر اس امر پر تنبیہ کی ہے کہ باری تعالیٰ اس سے اپنا فیضان اور توفیق احسان روک لیتا ہے۔ ❷

تَبَغَّلَ الْبَعِیْرُ: اونٹ کا خچر کی طرح تیز چلنا۔

کبھی خچر کی شرارت اور خباثت کے پیش نظر کمینے شخص کو بھی بَغْلٌ کہہ دیا جاتا ہے۔

ب غ ی

اَلْبَغْیُ: کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں۔ خواہ تجاوز کر سکے یا نہ۔ اور بَغْیٌ کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔

بَغَیْتُ الشَّیْءَ وَابْتَغَیْتُہٗ کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حد سے تجاوز کرنا۔ قرآن پاک میں ہے: ﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (۴۸:۹) یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں۔

﴿ یَبْغُوْنَکُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ (۴۷:۹) تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے۔

بَغْیٌ: دو قسم پر ہے۔ محمود یعنی حد عدل و انصاف سے تجاوز

---

❸ والمعروف في الرواية الحلال بين والحرام بين راجع (ق ٤، طس ،عن عمر ، ق ٥ ك عن سلمان) الفتح الكبير ٢ : ٨٢ـ٨٣).

مفردات القرآن (اردو)

مصنف

امام راغب اصفہانی

ب غ ی

اَلْبَغْیُ: کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں۔ خواہ تجاوز کر سکے یا نہ۔ اور بَغْیٌ کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔

بَغْضَاءَ قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَاَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۶۴:۵) اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔

﴿ اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۹۱:۵) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب

وحید الزماں قاسمی نے لفظ باغی بہت سارے معنیٰ بیان کیئے ہیں جس میں طلب کرنا زیادتی کرنا مخالفت کرنا تلاش کرنا چاہنا خواہش کرنا حد سے تجاوز کرنا وغیرہ ہے



بفش

بغی

بَغَى عليه : مخالفت کرنا ، بغاوت کرنا، فساد برپا کرنا .

بَغَى الشيءَ بُغْيَةً : چاہنا ، طلب کرنا (ق)

بَغَاه الشيءَ : تلاش کرانا، طلب کرنے میں مدد دینا (ح)

اِنْبَغَى : يَنْبَغِي له : اس کو چاہیے، اس کے لئے مناسب ہے (ق) .

اِبْتَغَى : خواہش کرنا ، چاہنا .

اِتَّبَاغَى القومُ : ایک دوسرے پر زیادتی کرنا

تَبَغَّى الشيءَ : ظلماً لینا یا لینے کی خواہش کرنا، زبردستی لینے کی کوشش کرنا .

البغام

البُغْمَة : موتیوں کا ہار ، گلوبند ح : بُغَم

• البَغْوُ : کچا پھل ، کانٹوں کا پھول .

• بَغَى ـِ بَغْيًا : تجاوز کرنا ، زیادتی کرنا، ظلم کرنا (۲) زخم میں پیپ پڑنا، سوجنا (۳) عورت کا زنا کرنا .



القاموس الوحید

جامع ترین مکمل عربی اردو لغت

تالیف

مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی

استاذ حدیث وادب عربی ومعاون مہتمم دار العلوم دیوبند

مراجعہ وتقدیم

مولانا عمید الزماں قاسمی کیرانوی

ادارہ اسلامیات

لاہور — کراچی

امام الفراھیدی علیہ الرحمہ 170ھ فرماتے ہیں باغی بمعنٰی طالب ہے کسی چیز کا طلب کرنا



كِتَابُ العَيْنِ
مُرَتَّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَم

تَصْنِيف
الخَلِيلِ بنِ أَحْمَدَ الفَرَاهِيدِي
المتوفى سنة ١٧٠هـ

ترتيب وتحقيق
الدكتور عـ
المدرس بكلـ

الجُ

الجـ

أ - غ

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

لدى رِشدةٍ من أُمّـه أو لِبغيـةٍ فيغلبها فحلٌ على النَّسْلِ مُنْجِبُ[1]

وابن رِشْدة إذا كان من ماء صاف. والبِغْية من الزِّنى. والبُغْيةُ: مصدر الابتغاء، تقول: هو بُغْيَتي، أي: طَلِبتي وطِيَّتي. وبَغَيْتُ الشيء أبغيه بغاء، وابتغيته: طلبته. وتقول: لا

حضرت معاویہ حضرت عثمان کا قصاص طلب کر رہے تھے

اس لیئے یہاں پر لفظ باغی یہاں معنٰی طلب کرنے والا ہوگا

البطن، قال الراجز:

لدى رِشدةٍ من أمه أو لبغيةٍ فيغلبها فحل على النسلِ منجب

وابن رِشْدة إذا كان من ماء صاف. والبِغْية من الزِّنى. والبُغْيةُ: مصدر الابتغاء، تقول: هو بُغْيَتي، أي: طَلِبتي وطِيَّتي. وبَغَيْتُ الشيء أبغيه بغاء، وابتغيته: طلبته. وتقول: لا ينبغي لك أن تفعلَ كذا، وما انبغى لك في الماضي، أي: ما ينبغي. والبَغْيُ في عَدْوِ الفَرَس: اختيالٌ ومَرَحٌ، وإنّه ليَبغي في عَدْوه. ولا يقال: فرسٌ باغٍ. والبَغْيُ: الظُّلْمُ.

بقع: البَقَعُ: لَوْنٌ يُالِفُ بَعْضُه بعضًا مثلُ الغُرابِ الأَسْوَدِ في صَدْرِه بَياضٌ. غُرابٌ أَبْقَعُ، وكَلْبٌ أَبْقَعُ. والبُقْعَةُ: قِطعةٌ من أرضٍ على غَيرِ هَيْأة التي على جَنْبِها، كُلُّ واحدةٍ منها بُقْعةٌ، وجمعُها بِقاعٌ وبُقَعٌ. والبَقيعُ: مَوْضِعٌ من الأرض فيه أُرُومُ شَجَرٍ من ضُرُوبٍ شَتّى،

---

(١) البيت في التهذيب (٢١٣/٨)، واللسان (بغا)، وفيه: أو بغية.

(٢) الرجز في اللسان (عشزر) وروايته: ضربًا وطعنًا نافذًا عشنزرا، والعشنزر الشديد الخلق العظيم من كل شيء.

امام اصفہانی فرماتے ہیں لفظ باغی کے معنٰی ہیں کسی چیز کی طلب میں میانہ روی اختیار کرنا حد سے تجاوز کرنا وغیرہ



بیزار ہونا کے ہیں۔ یہ حُبّ کی ضد ہے۔ جس کے معنی کسی پسندیدہ چیز کی طرف دل کا منجذب ہونا کے ہیں، کہا جاتا ہے۔ بَغِضَ (س) اَلشَّیْءُ بُغْضًا وَبَغَضْتُہٗ (ن) بَغْضَاءَ قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَاَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۵:۶۴)

اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے

فیضان اور توفیق احسان روک لیتا ہے۔ ❷

تَبَغَّلَ الْبَعِیْرُ: اونٹ کا خچر کی طرح تیز چلنا۔ کبھی خچر کی شرارت اور خباثت کے پیش نظر کمینے شخص کو بھی بَغْلٌ کہہ دیا جاتا ہے۔

ب غ ی

اَلْبَغْیُ: کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی

بَغْیٌ ہے۔ محمود یعنی حد عدل وانصاف سے تجاوز

---

❸ والمعروف فی الروایة الحلال بین والحرام بین راجع (ق ٤، طس ـعن عمر ـق ه ك عن سلمان) الفتح الکبیر ۲ : ۸۲ـ۸۳).

حضرت معاویہ حضرت عثمان کا قصاص طلب کررہے تھے

اس لیئے جو لوگ معاویہ پہ باغی کے غلط معنٰی لیتے ہیں
وہ بڑی فحش خطا پہ ہیں



ب غ ی

اَلْبَغْیُ: کے معنی کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا کے ہیں۔ خواہ تجاوز کر سکے یا نہ۔ اور بَغْیٌ کا استعمال کمیت اور کیفیت یعنی قدر و وصف دونوں کے متعلق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔

بغضاء قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَاَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ (۵:۶۴)

اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔

﴿ اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ ﴾ (۵:۹۱) شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب



دعا کا طلبگار
سمیر القادری
نعمان علی عطاری

امام نووی فرماتے ہیں اصحاب (شافعیہ) متفق ہیں باغیوں کو فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن وہ مخطی ہیں اور نہ ہی گناہگار کہا جائے گا



٣١ من بقق الى بلى

ذلك ما كنا نبغى) واتفق أصحابنا على البغاة اذا وجدت شروط تسميتهم أنهم بغاة ليسوا فساقا لكنهم مخطئون فى شبههم وتأويلهم واختلف أصحابنا فى أنهم عصاة أم لا مع اتفاقهم على أنهم ليسوا فسقة ومن قال يعصون قال ليست كل معصية فسقا والبغى فى اللغة التعدى والاستطالة ❊

❊ بقق ❊ البق معروف الواحدة بقة قال الزجاج البقاق كثير الكلام ❊

❊ بقل ❊ البقل معروف قال الزجاج



دعاگو
سمیر القادری
نعمان علی

تهذيب الأسماء واللغات

للامام العلامة الفقيه الحافظ
أبي ذكريا محي الدين بن شرف النووى
(المتوفى سنة ٦٧٦ هجرية)

الجزء الأول من القسم الثاني

قوبل على غير نسخة
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة

ادارة الطباعة المنيرية

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر رہے تھے اور آپ مجتہد تھے جس کی وجہ سے آپ پر لعن طعن سخت حرام ہے...

امام نووی فرماتے ہیں امام سے کسی چیز کا طلب کرنا بغاوت ہے یعنی مطالبہ کرنا..



مايستهل له وأصل ينبغى من قولهم بغيت

﴿ بكر ﴾ قال فى مشارق الانوار البكرة

والبغى الظلم . وقيل لمجاوزته الحد المشروع
وقيل لطلبه الاستعلاء علي الامام من قولهم
بغيت كذا أى طلبته ومنه قوله تعالى (قال
ذلك ما كنا نبغى) واتفق أصحابنا على

البغاة اذا وجدت شروط تسميتهم أنهم
بغاة ليسوا فساقا لكنهم مخطئون فى شبههم
وتأويلهم واختلف أصحابنا فى أنهم عصاة
أم لا مع اتفاقهم على أنهم ليسوا فسقة ومن
قال يعصون قال ليست كل معصية فسقا
والبغى فى اللغة التعدى والاستطالة *

﴿ بقق ﴾ البق معروف الواحدة بقة قال
الزجاج البقاق كثير الكلام *

﴿ بقل ﴾ البقل معروف قال الزجاج
بقل وجه الغلام وأبقل أى خرجت لحيته *

البلوعة *

﴿ بلل ﴾ قال الزجاج فى كتاب فعلت
وأفعلت يقال بل المريض من مرضه يبل
بلولا وأبل إبلالا واستبل استبلالا *

﴿ بلى ﴾ قال الجوهري البلوة والبلية
بكسر الباء فيهما والبلية بفتحها وتشديد
الياء والبلوى والبلاء واحد والجمع البلايا
وبلاه الله تعالى بلاء وأبلاه إبلاء حسنا
وابتلاه اختبره والتبالى الاختبار ويكون
البلاء الذى هو الاختبار فى الخير والشر



تهذيب
الأسماء والل

للامام العلامة الفقيه ا
أبى ذكريا محي الدين بن
(المتوفى سنة ٦٧٦ هجر

الجزء الأول من القسم

قوبل على غير نسخة

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة

ادارة الطباعة المنيرية

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

امام نووی فرماتے ہیں امام سے کسی چیز کا طلب کرنا بغاوت ہے یعنی مطالبہ کرنا..



مايَسْهُل له وأصل ينبغى من قولهم بغيت
الشىء أبغيه أى طلبته فانبغى لى أى حصل

﴿بكر﴾ قال فى مشارق الانوار البِكْرة

اوزته الحد المشروع
علي الامام من قولهم
بغيت كذا أى طلبته ومنه قوله تعالى (قال
ذلك ما كنا نبغى) واتفق أصحابنا على

البغاة اذا وجدت شروط تسميتهم أنهم
بغاة ليسوا فساقا لكنهم مخطئون فى شبهتهم
وتأويلهم واختلف أصحابنا فى أنهم عصاة
أم لا مع اتفاقهم على أنهم ليسوا فسقة ومن
قال يعصون قال ليست كل معصية فسقا
والبغى فى اللغة التعدى والاستطالة *

﴿بقق﴾ البق معروف الواحدة بقة قال
الزجاج البقاق كثير الكلام *

﴿بقل﴾ البقل معروف قال الزجاج
بقل وجه الغلام وأبقل أى خرجت لحيته *

البلوعة *

﴿بلل﴾ قال الزجاج فى كتاب فعلت
وأفعلت يقال بل المريض من مرضه يبل
بلولا وأبل إبلالا واستبل استبلالا *

﴿بلى﴾ قال الجوهري البلوة والبلية
بكسر الباء فيهما والبلية بفتحها وتشديد
الياء والبلوى والبلاء واحد والجمع البلايا
وبلاه الله تعالى بلاء وأبلاه إبلاء حسنا
وابتلاه اختبره والتبالى الاختبار ويكون
البلاء الذى هو الاختبار فى الخير والشر


تهذيب
الأسماء والل

للامام العلامة الفقيه
أبى ذكريا محي الدين بن
(المتوفى سنة ٦٧٦ هجر

الجزء الأول من القسم

قوبل على غير نسخة
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة
ادارة الطباعة المنيرية

يطلب من
دار الكتب العلمية

امام ابوالشکور سالمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دعویٰ میں شبہ ہوگیا تھا وہ تاویل کرتے تھے



https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتے۔

بایں ہمہ (ان سب باتوں کے باوجود) ہم کہتے ہیں کہ باغی کی نہ ہم تکفیر کرتے ہیں نہ تفسیق اس دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا" یعنی دونوں گروہ مومن ... اور دو طائفے یہی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے

حضرت معاویہ قصاص عثمان طلب کررہے تھے
آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں معاویہ مجتہد و فقیہ تھے

ہم کہتے ہیں کہ باغی کی تفسیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کی شہادت بالاتفاق جائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ باغی اپنے دعویٰ میں ماؤل ہوتا ہے۔

باغی کسے کہتے ہیں؟

باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے شبہ کے ساتھ اور حضرت معاویہ کو اپنے دعویٰ میں شبہ ہوگیا تھا اور وہ تاویل کرتے تھے اور تاویل کرنے میں ان لوگوں نے خطاء کی اور ان کی خطاء کبیرہ گناہ نہیں حتیٰ کہ مرتکب کبیرہ کی تفسیق کی جائے یا تکفیر۔

پھر حضرت معاویہ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے جیسے حضرت طلحہ حضرت زبیر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے متعلق ہم اس بات کا وہم بھی نہیں کرسکتے کہ وہ دیدہ و دانستہ ایسے امر کے مرتکب ہوں جو موجب فسق و کفر ہو باوجودیکہ یہ لوگ اہل دیانت اور صاحب فقہ و دانش تھے پھر اس پر اصرار بھی کریں حالانکہ یہ سب عادل اور فقیہ و مجتہد تھے اور اس لیے بھی کہ باغی کی جانب سے ایام جمعہ جماعت صلوٰۃ حج اور تولیت قضاء وغیرہ کی ولایت جائز ہے ثابت ہوا کہ وہ فاسق نہیں تھے۔

Click For More Books

https://ataunnabi.blogspot.com/

تمہید ابوشکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

دعا کا طلبگار
سمیر القادری
نعمان علی

تصنیف
امام اہل سنت علامہ ابوشکور محمد بن عبد السعید سالمی کشی

ترجمہ
مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ
ابوالبرکات سید احمد قادری
خلیفہ امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

For More Books

قاضی عبدالرزاق بھترالوی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حرام بغاوت کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اس کا معنیٰ ہے طلب کرنا

https://ataunnabi.blogspot.com/



157 نجوم التحقیق

ہر فریق دوسرے کو غلطی پر سمجھ رہا تھا ہر طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کئے جا رہے تھے اس لئے یہ اعتراض باطل ہے کہ وہ واقعی مال باطل طریقے سے کھانے کا عام حالات میں بھی حکم دیتے تھے یا عام حالات میں وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے حاشا وکلا ایسا نہیں یہ اجتہادی خطاء تھی جس پر کوئی گرفت نہ تھی بلکہ اجتہاد کی وجہ سے ثواب حاصل تھا۔ پھر "اطعه فی طاعة الله" کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کر رہے تھے رب تعالیٰ کے نافرمان نہیں تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے یہ الفاظ "واعصه فی معصیة الله" اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا اجتہاد انہیں غلطی پر سمجھتا ہے تو جو تم اپنے خیال کے مطابق غلطی اور رب کی نافرمانی سمجھو اسے نہ مانو۔

اعتراض بغاوت معاویہ پر:

حدیث پاک سے تو معاویہ اور ان کی جماعت کا باغی ہونا سمجھ آ رہا ہے۔ آیئے! حدیث پاک دیکھئے:

"عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ قال لعمار تقتلك الفئة الباغية" (مسلم ج ۲ ص ۳۹۳ کتاب الفتن)	"حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: بیشک رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار کو فرمایا تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔"

امام حق کی مخالفت کی چار وجوہ ہیں اگرچہ بظاہر سب پر بغاوت کا اطلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حرام بغاوت کا اطلاق نہیں" آیئے! ذرا تفصیل دیکھئے:

بغاوت کا معنیٰ طلب کرنا ہوتا ہے

تفصیل دیکھئے:



آیات قرآنیہ و حدیث نبویہ سے مرصع صحابہ کرام کے اقوال اور صالحین امت کے
آثار سے مزین "شان سیدنا امیر معاویہ" اور منکرین نعرہ تحقیق "حق چار یار" کے رد بلیغ پر
تحقیق انیق

دعا کا طلبگار
سمیر القادری
نعمان علی

نجوم التحقیق

مکتبہ امام احمد رضا

قاضی عبدالرزاق بھترالوی فرماتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اجتہادی اختلاف تھا ایک گروہ حق پر اور دوسرے کی اجتہادی خطا تھی

https://ataunnabi.blogspot.com/



ان کو خارجیوں والی بغاوت کا نام دیا جائے خارجی تو کافر ہیں کسی صحابی کو (معاذ اللہ) کافر نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں! کوئی کافر کسی صحابی کو باغی بمعنی خارجی کہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہے ہی کافر، کافر کا مسلمان کو کافر کہنا کوئی باعث تعجب نہیں۔

ہمارے ذہنوں میں جو بغاوت ہے وہ بھی صحابہ کرام میں نہیں تھی کیونکہ مشہور بغاوت ناجائز ہے صحابہ کرام کسی حرام کے مرتکب نہیں ہوئے۔ لہذا صحابہ کرام میں مذکورہ قسم کی بغاوت نہیں تھی۔

صحابہ کرام میں کون سی بغاوت تھی؟



آیات قرآنیہ و حدیث نبویہ صحابہ کرام کے اقوال اور صالحین امت کے
آثار سے مزین "شان سیدنا امیر معاویہ" اور منکرین نعرہ "تحقیق حق چاریار" کے رد بلیغ پر
تحقیقِ انیق
نجوم التحقیق



صحابہ کرام میں کون سی بغاوت تھی؟

صحابہ کرام میں اجتہادی اختلاف تھا ایک فریق کا اجتہاد درست تھا دوسرے کا اجتہاد درست نہ تھا جس فریق کا اجتہاد درست نہ تھا اور وہ درست اجتہاد والے مجتہد مصیب فریق سے جنگ کر رہے تھے اجتہاد خطی فریق کو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کے عطاء کردہ علوم غیبیہ کی وجہ سے باغی فرمادیا تھا کہ وہ فریق جو مصیب نہیں ہوگا ان کی اجتہادی خطاء کی وجہ سے ان کا مطالبہ زیادتی ہوگا اسی مطالبہ کی زیادتی کو بغاوت کا نام دیا



بلکہ اس بغاوت کی وضاحت بھی کریں صحابہ کرام کو مطلقاً باغی کہنے والے اور اس بغاوت کی صحیح ترجمانی نہ کرنے والے درحقیقت صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے ہیں ان کو ہی علماء سوء کہا جاتا ہے بلکہ راقم کے نزدیک وہی جہلاء مطلق ہیں۔ بغضِ صحابہ رکھنے والے جہلاء کیا دین اسلام کی وضاحت کریں گے وہ تو منافقانہ انداز سے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں

ooks
ohaibhasanattari

اہل سنت کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اس سب میں ان سے قتال کرنے والے سب باغی مخطی تھے کافر نہیں تھے
شیعہ اسکے برعکس انکو کافر کہتے ہیں ,اور نا تو حضرت
علی سے قتال کرنے والے فاسق تھے جیسا کہ عمرو بن عبید معتزلی کے اصحاب نے انکو فاسق قرار دیا..



وحدث من ذلك ما أوجب ترك القتال مع معاوية والاشتغال بأمر الخوارج وذلك تقدير / العزيز العليم، وأهل السنة ـ إلاّ من شذ ـ يقولون: إنّ عليا كرّم الله تعالى وجهه في كلّ ذلك على الحق لم يفترق عنه قيد شبر⁽¹⁾، وأنّ مقاتليه في الوقعتين مخطئون باغون⁽²⁾، وليسوا كافرين⁽³⁾ خلافًا للشيعة، ولا فاسقين خلافًا « للعَمْرية »⁽⁴⁾ أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة، [ولمن شذ من أهل السنة، ولا أنّ أحد الفريقين من علي كرّم الله وجهه ومقاتليه لا بعينه فاسق خلافا للواصلية، أصحاب واصل بن عطاء المعتزلي⁽⁵⁾]⁽⁶⁾.

المقالات (١/٦١ ـ ٦٢)، واصفًا ما حدث: « انكسرت سيوف الفريقين ونصلت

سمیر القادری

نعمان علی



وذلك تقدير / العزيز العليم، وأهل السنة ـ إلاّ من شذ ـ يقولون: إنّ عليا كرّم الله تعالى وجهه في كلّ ذلك على الحق لم يفترق عنه قيد شبر⁽¹⁾، وأنّ مقاتليه في الوقعتين مخطئون باغون⁽²⁾، وليسوا كافرين⁽³⁾ خلافًا للشيعة، ولا فاسقين خلافًا « للعَمْرية »⁽⁴⁾ أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة، [ولمن شذ من أهل السنة، ولا أنّ أحد الفريقين من علي كرّم الله وجهه ومقاتليه لا بعينه فاسق خلافا للواصلية، أصحاب واصل بن عطاء المعتزلي⁽⁵⁾]⁽⁶⁾.

(٥) هو واصل بن عطاء الغزال البصري المتكلم الفصيح منشىء المعتزلة وشيخهم اعتزل حلقة الحسن البصري هو وجماعة فسموا المعتزلة ولد بالمدينة سنة (٨٠هـ) ومات سنة ١٨١هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٦/٧ ـ ١١)، الفرق بين الفرق (١١٧ ـ ١٢٠)، مجموع الفتاوى (٢٧/٣٥).

(٦) ما بين المعقوفين غير موجود في المختصر.



الأجوبة العراقية
على الأسئلة اللاهورية

لمفتي العراق في عصره والإمام المفسر
أبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله
(١٢١٧هـ-١٢٧٠هـ)

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه
د. عبد الله بن [illegible]

دار ابن عفان

دار ابن القيم



تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

من الظلم والفسق في مطالبته بدم

أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه

تصنيف

الشيخ الإمام القاضي أبي يعلى

محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء

(٣٨٠ - ٤٥٨ هـ)

رواية:

ولده الشيخ السيد أبي الحسين محمد عنه

ومعه

مقدمة علمية عامة حول الموضوع

قدم له وحققه وعلق عليه

أبو عبد الله الأثري

دار النبلاء

دعاگو

نعمان علی

سمیر القادری

رفع
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com



نص المخطوط

بسم الله الرحمن الرحيم

-حدثنا القاضي الإمام أبو الحسين محمد بن القاضي الإمام أبي يعلى(1) محمد بن الحسين بن الفراء(2)، قال:

قُرِئَ على والدي السَّعيد؛ وأنا أسمع، وذلك في رجب سنة ثمان وخمسين وأربع مائة، في مسجده من الجانب الغربي بنهر القلائين(3):

أسعدك الله بطاعته، ووفَّقَكَ لصالح دنياك وآخرتك، عما جرى بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما، وهل يجوز أن يُضَافَ إلى معاوية بذلك ظلم أو فسق؟

والجواب؛ والله الموفق للصواب:

أنه لا يجوز أن يُضافَ إليه شيء من ذلك، بل يقال: أنه(4) اجتهد، وله أجر على اجتهاده، ووجه اجتهاده أنه قال:

---

(1) رسمت في المخطوط؛ هكذا: يعلا.

(2) هو: الإمام محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء؛ أبو الحسين. ابن المصنف

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رحمہا اللہ

امام ابی یعلیٰ کے بیٹے محمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو ہوا تو اسکی وجہ سے امیر معاویہ کی طرف فسق یا ظلم کی نسبت کرسکتے ہیں قاضی ابی یعلیٰ نے جواب دیا ہرگز نہیں کیونکہ معاویہ نے اجتہاد فرمایا تھا اس لیئے ان کی طرف یہ نسبت کرنا جائز نہیں



دعاگو: اسد الطحاوی

البداية والنهاية

للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل
ابن عمر بن كثير القُرَشىّ الدّ
٧٠١ - ٧٧٤ هـ

تحقيق
الدكتور عبد الله بن عبد المحس

بالتعاون مع
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر

الجزء الرابع

ويُشبِهُ أن يكونَ قولُه : الخندق . وَهَمًا ، أو أنّه قال له ذلك فى بناءِ المسجدِ وفى حفرِ الخندقِ . واللهُ أعلم .

قلتُ : حملُ اللَّبِنِ فى حفرِ الخندقِ لا معنى له ، والظاهرُ أنّه اشتبه على النّاقلِ . واللهُ أعلم . وهذا الحديثُ من دلائلِ النُّبوّةِ ؛ حيثُ أخبر ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، عن عمّارٍ ، أنّه تَقتُلُه الفئةُ الباغيةُ ، وقد قتله أهلُ الشّامِ فى وَقْعةِ صِفّين ، وعمّارٌ مع عليٍّ وأهلِ العراقِ ، كما سيأتى بيانُه وتفصيلُه فى موضعِه . وقد كان عليٌّ أحقَّ بالأمرِ مِن معاويةَ ، ولا يَلْزَمُ مِن تسميةِ أصحابِ معاويةَ بُغاةً تكفيرُهم ، كما يُحاوِلُه جَهَلَةُ الفِرْقَةِ الضّالَّةِ مِن الشّيعَةِ وغيرِهم ؛ لأنَّهم وإن كانوا بُغاةً فى نفسِ الأمرِ ، فإنَّهم كانوا مُجتهِدِين فيما تَعاطَوْه مِن القِتالِ ، وليس كلُّ مُجتهِدٍ مُصِيبًا ، بل المُصيبُ له أجْران ، والمُخطِئُ له أجرٌ ، ومَن زادَ

تُنقَلْ من طريقٍ تُقبَل . والله أعلم . وأما قوله : « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النّار » . فإنَّ عمّارًا وأصحابَه يدعون أهلَ الشّامِ إلى الأُلفةِ واجتماعِ الكلمةِ ، وأهلَ الشّامِ يُريدون أن يَستأثِروا بالأمرِ دون مَن هو أحقُّ به ، وأن يكونَ النّاسُ أوزاعًا(٢) ، على كلِّ قُطرٍ إمامٌ برأسِه ، وهذا يُؤدّى إلى افتراقِ الكلمةِ واختلافِ الأُمّةِ ، فهو لازمُ مذهبِهم ، وناشئٌ عن مسلكِهم ، وإن كانوا لا يَقصِدونه . واللهُ أعلم . وسيأتى تقريرُ هذه المباحثِ إذا انتهينا إلى وَقْعةِ صِفّين من كتابنا

---

(١) سقط من : م.
(٢) الأوزاع : الفِرَق من الناس ، يقال : أتيتهم وهم أوزاع ، أى متفرقون . اللسان (و ز ع).

اور یہ کہ اس سے معاویہؓ اور انکے اصحاب کا تکفیری طور پر باغی ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ شیعہ کا جاہل اور گمراہ فرقہ سمجھتا ہے اگر وہ اس مسلے میں باغی تھے تو وہ مجتہدین میں سے بھی تھے۔ جس (امر) میں انہوں نے لڑائی کی اور ہر مجتہد صحیح (اجتہاد پر) نہیں ہوتا اگر مجتہد صحیح (اجتہاد) پر ہو تو اسکو دو اجر ملتے ہیں اور اگر خطاء پر ہو تو اسکو ایک اجر ملتا ہے





تعالیٰ قوت والا، غالب ہے۔ اور امام سبکی رضی اللہ عنہ اپنے ایک قدیم رسالے میں فرماتے

ہم پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کی آراء ہمارے نزدیک ہمارے نفسوں کے لئے ہماری آراء سے

چوالیسویں بحث

مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق



چوالیسویں بحث

مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق

یہ بیان کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کے متعلق لب کشائی سے رکنا واجب ہے اور یہ اعتقاد واجب ہے کہ وہ سب اجر پانیوالے ہیں۔

اور یہ اس لئے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ سب عادل ہیں۔ برابر ہے کہ کوئی فتنوں میں ملوث ہوا یا نہیں ہوا۔ جیسے حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور واقعہ جمل کے دور کا فتنہ۔ اور یہ سب کچھ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن ظن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے۔ کیونکہ ان امور کی بنیاد اسی پر ہے۔ اور ہر مجتہد درست ہے یا درست ایک ہے اور خطا کرنیوالا معذور بلکہ ماجور ہے۔



عدالت صحابہ کرام کا مفہوم

ابن الانباری نے کہا کہ ان کی عدالت سے مراد ان کے لئے عصمت کا ثبوت اور ان سے عصمت کا محال ہونا نہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ اسباب عدالت کی بحث اور ان کے تزکیہ کی طلب کے تکلف کے بغیر ہمارے دین کے احکام کے متعلق ہمارے لئے ان کی روایات قبول ہیں۔ اور بحمدہ وتعالیٰ آج تک ہمیں ایسی کسی چیز کا ثبوت نہیں ملا جو ان کی عدالت کو مجروح کرے۔ پس ہم اسی کو لازم کرتے ہیں جس پر کہ یہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں تھے۔ یہاں تک کہ اس کے خلاف ثابت ہو۔ اور بعض اہل سیر جو کچھ ذکر کرتے ہیں لائق التفات نہیں۔ کیونکہ یہ صحیح نہیں۔ اور اگر صحیح ہے تو اس کی کوئی صحیح تاویل ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہلسنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں۔ برابر ہے کہ کوئی بھی فتنوں میں ملوث ہوا یا نہیں جیس حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور دور جمل۔ اور واجب ہے کہ ان پر حسن ظن رکھا جائے اور انہیں اس بارے میں اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے کیونکہ ان کی بنیاد ان ہی امور پر ہے اور ہر مجتہد درست ہے یا پھر ایک درست ہے اور خطا کرنے والا معزور بلکہ ماجور ہے

رحمۃ اللہ علیہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں یہ حدیث میرا بیٹا دو مسلمان گرہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فسق پر فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضور ﷺ پر بلکہ اللہ تعالیٰ پر طعن کرتا ہے



علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا:

إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (26)

میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عزوجل اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرادے۔

تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقۃً حضرت امام حسن مجتبیٰ، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عزت جل وعلا پر طعن کرتا ہے۔

وجہ الکریم خطائے اجتہادی واقع ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی، عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، عناداً ہو، خواہ اجتہاداً

فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب

مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں امیر معاویہ پر فسق کا اطلاق حقیقتاً امام حسن. حضور ﷺ اور اللہ تعالیٰ پر طعن ہے

صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

اللہ کے حبیب کی محبوبہ جن کی پارسائی کی گواہی آسمان سے نازل ہوئی۔

(مدارج النبوت، قسم پنجم، باب دوم)


فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب
فیضانِ شریعت
شرح بہارِ شریعت
1-2
مصنف: حضرت مولانا محمد امجد علی
پروگریسو بکس
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام ابی بکر الحنفی ۳۷۰ھ فرماتے ہیں مولا علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
کے درمیان جو کچھ وہ اجتہاد پر مبنی تھا مولا علی حق پر تھے اور معاویہ غلطی پر یعنی ان خطا اجتہادی تھی



أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ما في الأرض جميعًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»[١].

ويعلم أن رجعة علي باطل، وليس كما زعم الروافض؛ [٢٠٧] إنهم يقولون بأن عليًا يرجع قبل قيام الساعة مع أهل بيته، فهذا محال. «وللكرار»: أراد به أبا السبطين علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، وكان يكنى بأبي تراب أيضًا، وإنما لقب به لأنه كان كثير القتال على الأعداء.

واعلم أن عليًا كان في محاربته مع معاوية والخوارج، وابن الزبير، وما جرى بينه وبين معاوية كان مبنيًا على الاجتهاد ولا منازعة من معاوية لعليّ في الإمامة، ولكنه كان مخطئًا في خروجه عليه، وعلي، رضي الله عنه، كان مصيبًا في جميع ما عمل في حروبه وصلحًا دار إلى حيث دار وكان الحق في يده، فمن قال: الحق في يد غيره كان خارجيًا. وإن طلحة والزبير وعائشة قد تابوا عن ذلك، ورجعوا إلى الحق، وعائشة إنما جاءت للمصلحة.

ـمن طريق كادح بن رحمة، وتقدم القول عند ابن الجوزي وقال الحاكم وأبو نعيم فيه أيضًا: روى عن مسعر والثوري أحاديث موضوعة.

وقال البيهقي: هو مجهول. وقال ابن عدي: ولكادح غير ما أمليت أحاديث وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة، ولا يتابع عليه في أسانيده ولا في متونه.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: «الصلاة» باب: (ما جاء في السفر يوم الجمعة): (٢/ص ٤٠٥) حديث رقم: (٥٢٧) من طريق مقسم عن ابن عباس . . . . به.

وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولفظه: «لو أنفقت ما في



دعاگو
سمیر القادری
نعمان علی

شرح
بدء الأمالي

تأليف
الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي
المتوفى سنة ٣٧٠هـ

تحقيق
أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم



لأنه كان كثير القتال على الأعداء.

واعلم أن عليًا كان في محاربته مع معاوية والخوارج، وابن الزبير، وما جرى بينه وبين معاوية كان مبنيًا على الاجتهاد ولا منازعة من معاوية لعليّ في الإمامة، ولكنه كان مخطئًا في خروجه عليه، وعلي، رضي الله عنه، كان مصيبًا في جميع ما عمل في حروبه وصلحًا دار إلى حيث دار وكان الحق في يده، فمن قال: الحق في يد غيره كان

كانوا يعملون﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٤١].

امام قطلوبغا حنفی اور امام کمال بن ابی شریف ابن الھمام فرماتے ہیں علی رضی اللہ
ومعاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں وہ تعالی عنہم
اجتہاد پر مبنی تھی وہ حضرت عثمان کے قصاص اور اجمعین
قاتلین کو امیر معاویہ اور انکے ساتھی طلب کررہے تھے حضرت معاویہ کا جھگڑا خلافت کیلئے نہیں تھا



الله عنه لمعاوية ومن معه لما بينهما من بنوة العمومة (كان مبنيا على الاجتهاد)
من كل منهما (لا منازعة من معاوية) رضى الله عنه (فى الامامة اذ ظن على)
رضى الله عنه (أن تسلم قتلة عثمان) على الفور (مع كثرة عشائرهم واختلاطهم
بالعسكر يؤدى الى اضطراب أمر الامامة) العظمى التى بها انتظام كلمة أهل الاسلام
(خصوصا فى بدايتها) قبل استحكام الامر فيها (فرأى التأخير) أى تأخير
تسليمهم (أصوب الى أن يتحقق التمكن) منه (ويلتقطهم) أولا فأولا (فان بعضهم
عزم على الخروج على على وقتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان

أن يأخذهم أخرجه الترمذى ولنا على هذا الحديث كتابة مختصرة (وماجرى بين
معاوية وعلى رضى الله عنهما) من الحروب بسبب طلب تسليم قتلة عثمان رضى

(الاصل الثامن وماجرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما الخ) جواب عما
عساه أن يقال

Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

الله عنه لمعاوية ومن معه لما بينهما من بنوة العمومة (كان مبنيا على الاجتهاد)
من كل منهما (لا منازعة من معاوية) رضى الله عنه (فى الامامة اذ ظن على)
رضى الله عنه (أن تسلم قتلة عثمان) على الفور (مع كثرة عشائرهم واختلاطهم

(هو الاول لذهاب كثير) من العلماء رحمهم الله تعالى (الى أن قتلة عثمان لم يكونوا

كتاب المسامرة
فى شرح المسايرة
للكمال بن أبى شريف بن الهما
فى علم الكلام
مع حاشية زين الدين قاسم على المسايرة
المسامرة فى شرح المس
وشرحه الشيخ
الجزء الأول والثانى
المكتبة الأزهرية للتراث

*و: بَشَا، كَدَعَا: حَسُنَ خُلُقُهُ.

*و: بَضَا، كَدَعَا: اسْتَقْصَى على غريمِهِ. والبِضَاءُ، بالك
استقصاءُ الخِصاءِ، وخَصاهُ اللّهُ وبَصاهُ ولَصاهُ. ويُقا
خَصِيٌّ بَصِيٌّ. وما في الرَّمادِ بَصْوَةٌ، أي: شَرَرَةٌ ولا جَمْ
وبَضْوَةُ: ع.

*ي: بُضَى، كرُبَى وهُدَى: ة بِبِلادِ بَجِيلَةَ، أو وادٍ.

●ي: الباطِيَةُ: الناجُودُ. وحَكَى سِيبَوَيْهِ البِطْيَةَ، بالكسر،
عِلْمَ لي بِمَوْضُوعِها⁽¹⁾، إلاَّ أنْ يكونَ أَبْطَيْتُ: لُغَةً
أَبْطَاتُ⁽²⁾.

●و: بَظَا: لَحْمُهُ يَبْظُو بُظُوّاً: اكْتَنَزَ، وتَراكَبَ. والبُظْ
بالضم: لَحَماتٌ مُتَراكِبَاتٌ، وحَظِيَتِ المرأةُ وبَظِيَتْ: إتْبا

●و: البَغْوُ: الجِنايَةُ، والجُرْمُ، وقد بغَى، كنَهَى ودَعَا ورَ
والعارِيَةُ، أو أن تَسْتَعِيرَ كَلْباً تَصيدُ به، أو فَرَساً تُسابِقُ ع
كـالاسْتِبْغاءِ. وأبغاهُ فَرَساً: أَخْبَلَهُ. وبغاهُ بَغْواً: قَمَ
وأصابَ منه، و-بالعينِ: أصابَهُ بها، و-عليهم شَرّاً: ساقَهُ

●و: بَغَا الشيءَ بَغْواً: نَظَرَ إليه كَيْفَ هو. والبَغْوُ: ما يَ
من شَجَرِ العُرْفُطِ⁽³⁾ والسَّلَمِ. والبَغْوَةُ: الطَّلْعَةُ تَنْشَقُّ فَتَ
بَيْضاءِ، والثَّمَرَةُ قبلَ نِضاجِها. وبَغْوانُ: ة بِنَيْسابورَ
والبَغَوِيُّ: الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ الفَرّاءُ، منسوبٌ إلى بَغْشُ
وذُكِرَ.

●ي: بَغَيْتُهُ: سمف، ، بغية،
بالكسر: طَلَ بغَ
كَرَضِيَّةٍ: ما الهَ
المَبْغِيَّةُ: وأبْ إيّا
أعانَهُ على طَلَبِهِ. واسْتَبْغَى القو بَغَوْهُ، و-ل



القاموس المحيط

تأليف
العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي
(المتوفى سنة ٨١٧ هـ)

تحقيق
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

بإشراف
محمد نعيم العرقسوسي

طبعة ثانية منقحة مفهرسة

مؤسسة الرسالة

دعاگو
سمیر القادری
نعمان علی

واستبقاه: استحياه، و- من الشيء: ترك بعضه. وبقي بن
المَبْغِيَّةُ: وأبْغاهُ الشيءَ: طَلَبَهُ له، كـبَغَاهُ إيّاهُ، كَرَماهُ، أو
أعانَهُ على طَلَبِهِ. واسْتَبْغَى القَوْمَ فَبَغَوْهُ، و-له: طَلَبُوا له.
والباغِي: الطَّالِبُ ج: بُغاةٌ وبُغْيانٌ. وانْبَغَى الشيءُ: تَيَسَّرَ،

لفظ باغی
کا اطلاق

امام الفیروز آبادی 817ھ نے لفظ باغی کے بہت سے معنٰی بیان کیئے جس میں ایک لفظ طلب کرنا بھی ہے(یعنی جیسے معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا)

رضی اللہ تعالیٰ عنہم

امیر معاویہ مجتہد تھے اس وجہ سے یہاں پر یہی معنٰی مراد لیا جائے گا... اور لفظ باغی کا اطلاق صرف امام حسن کی صلح تک محدود ہے

رضی اللہ عنہم

امام الحرمین جوینی اپنی کتاب الارشاد میں فرماتے ہیں :-

حضرت علی اسوقت امام برحق تھے ان سے قتال کرنے

والے اگرچہ باغی تھے مگر ان پر حسن ظن رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انکی بغاوت اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ بھلائی اور خیر چاہتے تھے اگرچہ ان سے خطاء ہوئی



المكتبة الفلسفية

كتاب الإرشاد

إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

لإمام الحرمين الجويني
(٤١٩-٤٧٨هـ)

ضبط وتحقيق

الأستاذ الدكتور
أحمد عبد الرحيم السايح

المستشار
توفيق علي وهبة

الناشر
مكتبة الثقافة الدينية



فحقيق على المتدين، أن يستصحب لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نقلت هناة فليتدبر النقل وطريقه، فإن ضعف رده؛ وإن ظهر وكان آحادًا. لم يقدح فيما علم تواترًا منه وشهدت له النصوص ثم ينبغي ألا يألوا جهدًا في حمل كل ما ينقل على وجه الخبر، ولا يكاد ذو دين بعدم ذلك. فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل والتطويل.

فصل

فصل

[في حكم قتال علي رضي الله عنه]

عليُّ بن أبي طالب كان إمامًا حقًّا في توليته. ومقاتلوه بغاة، وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطأوه، وعائشة رضي الله عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة وتطفئة نار الفتن، وقد اشرأبت للاضطرام، فكان من الأمر ما كان.

ولا يعصم واحد من الصحابة عن زلل، والله ولي التجاوز بمنّه وفضله، وكيف يشترط العصمة لآحاد الناس، وهي غير مشروطة لإمام! ولا يكترث بقول من يشترط العصمة للأئمة من الإمامية، فإن العقل لا يقضي باشتراطها. وكل ما يحاولون به إثبات عصمة الإمام يلزمهم عصمة ولاته وقضاته وجباته للأخر

المبتدي، ويتشوق بها المنتهي إلى جلة المصنفات. وقد تصرمت بعون الله وتأييده، والحمد لله المشكور على إفضاله، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين وسلم تسليمًا.

امام ابی الیسر محمد البزدوی فرماتے ہیں اکثر اہلسنت حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت معاویہ امام تھے اہلسنت کے قول کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات کے سے وہ امام متغلب تھے اور اکثر صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی



من نوادر التراث
فى علم التوحيد على
مذهب الماتريدية

أُصول الدِّين

للإمام أبى اليُسر محمد البَزْدَوى

تحقيق
الدكتور هانز بيتر لنس

ضبطه وعلق عليه
الدكتور أحمد حجازى السقا

الناشـر
المكتبة الأزهرية للتراث
٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر الشريف
ت: ٥١٢٠٨٤٧ القاهرة



مسألة [٧٠]

القول فى إمامة معاوية
بعد وفاة على –رضى الله عنه–
والقول فى يزيد بن مُعَاوِيَة

أمّا بعد موت «على» هل صار «معاوية» إماما؟.

قال عامّة «أهل السنّة والجماعة»: صار إمامًا.

وقال بعض «أهل السنّة والجماعة» : إنه لم يصر.

وجه قولهم: إنه لم يكن أفضل «الصحابة» بعد «على» بل كان ثمّة يومئذ مَنْ هو أفضل منه بكثير فى النسب والعلم والتقوى والشجاعة، ولأن أحدًا من جملة «الصحابة» لم يَرَهُ إمامًا، ولا عقد له عقد الإمامة.

وجه قول عامة «أهل السنة» والجماعة»: هو أنه صار غالبًا على الناس بعد وفاة «على» ولم يكن يومئذ إمام حقّ سواه فصار إمامًا بحكم التغلب. فلهذا انقاد له عامّة «الصحابة» من بنى هاشم وقريش، و«معاوية» رضى الله عنه ما كان من جملة الخلفاء، ولكن كان من جملة الملوك على ماروينا عن النبى عليه السلام أنه قال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثمّ بعدها مُلك وجَبَرُوت»، وكان بعده «معاويةُ» ملكًا.

وأمّا «يزيد بن معاوية» [فإنه] كان ظالمًا، ولكن هل كان كافرًا؟ تكلّم الناس فيه. بعضهم كفّروه، لما حُكى عنه من أسباب الكفر، وبعضهم لم يكفروه وقالوا: لم يصحّ منه تلك الأسباب ولا حاجة بأحد إلى معرفة حاله؛ فإن الله تعالى أغنانا عن ذلك.

راضحة البينة الثابتة(٢) المعروفة](٣) ذكر محاسن

[كلِّهم أجمعين](٤)، والكف عن ذكر مساويهم

بينهم(٦)، فمن سب أصحاب رسول الله ﷺ، أو

](٨)، أو طعن عليهم، أو عرَّض بعيبهم، أو عاب


إجماع السلف في الاعتقاد
كما حكاه
الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني
تقديم
فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن هادي المدخلي
تحقيق وتعليق
أسعد بن فتحي الزعتري
دار الإمام أحمد



* و[من السنة(١) الواضحة البينة الثابتة(٢) المعروفة](٣) ذكر محاسن أصحاب رسول الله ﷺ [كلِّهم أجمعين](٤)، والكف عن ذكر مساويهم و[الخلاف](٥) الذي شجر بينهم(٦)، فمن سب أصحاب رسول الله ﷺ، أو أحدًا(٧) منهم، [أو تنقصه](٨)، أو طعن عليهم، أو عرَّض بعيبهم، أو عاب أحدًا منهم، [بقليل أو كثير، أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم](٩)، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله(١٠)، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.

* وخير [هذه](١١)

امام کرمانی 280ھ عقیدہ اہلسنت بیان کرتے ہیں

اور یہ سنت ہے اور واضح بین اور ثابت شدہ ہے اور معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے محاسن بیان کئے جائیں اور انکے آپسی اختلافات و مشاجرات بیان کرنے سے زبان بند کی جائے (لیعنی مشاجرات کا ذکر جائز نہیں ہے)، لیعنی جو اُن میں مشاجرات ہوئے...

جس شخص نے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا اُن میں سے کسی ایک کو یا تنقیص کی یا طعن کیا صحابہ پر یا صحابہ پر کوئی عیب لگایا یا کسی ایک کو عیب لگایا (اگرچہ قلیل ہو یا کثیر یا چھوٹا یا بڑا ایسا طریقہ جس میں صحابہ میں سے کسی ایک پر عیب لگایا گیا ہو)

تو صحابہ پر ایسا عیب لگانے والا بتدع راف**ضی خبی**ث ہے مخالف ہے... اللہ تعالٰی ایسے کی نا فرض نماز قبول کرتا ہے نا نفل نماز, اور بلکہ صحابہ کی محبت سنت ہے,اور انکے لئے دعا قربت کی اور انکی اقتداء وسیلہ ہے اور انکے آثار پر عمل فضیلت ہے....

---

(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)
(٧)
(٨)
(٩)
(١٠)
(١١)



سلسلة عقائد أئمة السنة
(٢)

اعتقاد أئمة أهل الحديث

لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الاسماعيلي
٢٧٧ . ٣٧١
صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري
رواية الحافظ حمزة بن يوسف السهمي
المتوفى سنة ٤٢٧هـ
حققه وقدم له وعلّق عليه
د/محمد بن عبدالرحمن الخميس

فيهم وتـأول القبيح عليهم،
نهم على التأويل إلى الله عزّ

لتعفف في المـــأكـل والمشرب
ـمـل الخير، والأمر بالمعروف
عـراض عن الجـاهلين حتى
لحق ثم الإنكار والعقوبة من
ـر بينهم ومنهم .



[«وجو [«الكف عن الصحابة»] :

(٤٠) (٣٨) والكفّ عن الــوقيعـة فيهم وتـأول القبيح عليهم،
ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عزّ
وجلّ .

امام اسماعیلی صاحبِ مستخرج علی صحیح بخاری فرماتے ہیں
سکوت لازم ہے جو کچھ صحابہ کے درمیان ہوا
اور قبیح تاویلوں سے زبان بند کی جائے، اور جو کچھ
صحابہ کے مابین ہوا اسکی تاویل اللہ کی طرف سونپی
جائے یعنی اللہ کے سپرد معاملہ کیا جائے





صحابہ پر لفظ باغی کا اطلاق

بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ ان حضر
جمہور اہل سنت کے مذہب میں ان کی تعظیم وتکریم شر
اس لئے شرعاً وہ بغاوت وخطا جو عمداً واقع نہ ہوئی ہو فس
والسلام کا ارشاد گرامی رُفع عن امتی الخطاء وال
لیا گیا ہے) اس پر شاہد ہے اور صحابہ کرام کی خطائیں م
اور نہ ہی معذور بلکہ عنداللہ ماجور ہیں، اس خطا کی وجہ
تعظیم وتکریم سے رُکنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے او
فرماتے ہیں کہ اخواننا بغوا علینا (ہمارے بھ
طعن جناب مرتضوی پر طعن ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل
شرح مشکوٰۃ، مجمع البحار، صواعق محرقہ اور شفا قاضی عیا



صحابہ پر لفظ باغی کا اطلاق: ان حضرات پر لفظ باغی کے اطلاق کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ ان حضرات پر لفظ باغی کا اطلاق درست ہے لیکن جمہور اہل سنت کے مذہب میں ان کی تعظیم وتکریم شرف صحابیت کی وجہ سے ضروری ولازمی ہے اس لئے شرعاً وہ بغاوت وخطا جو عمداً واقع نہ ہوئی ہو فسق وعصیان کو مستلزم نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی رُفع عن امتی الخطاء والنسیان (میری اُمت سے خطا ونسیان کو اٹھا لیا گیا ہے) اس پر شاہد ہے اور صحابہ کرام کی خطائیں معاف ہیں کیونکہ یہ حضرات نہ تو معصوم ہیں اور نہ ہی معذور بلکہ عنداللہ ماجور ہیں، اس خطا کی وجہ سے ان کی شان میں بے ادبی کرنا اور ان کی تعظیم وتکریم سے رُکنا اہل سنت سے خارج ہونا ہے اور مذہب اہل سنت میں یہ ہے کہ حضرت علی

بنا تاریخی واقعات اور
کے خلاف لکھا گیا ہے
متکلمین کا مذہب مختار
ے ساتھ نقل کئے جاتے

تاج الفحول فرماتے ہیں لفظ باغی کا اطلاق
درست ہے لیکن جمہور اہل سنت کے مذہب میں
ان کی تعظیم و تکریم شرف صحابیت کی وجہ سے
ضروری ہے اس لئیے شرعاً وہ بغاوت جو
عمداً واقع نہ ہوئی ہو فسق و عصیان کو مستلزم نہیں

المبحث الثالث

الموقف مما وقع بينهم

من فضل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومكانتهم،
لطعن فيهم، يبين لنا الموقف مما وقع بينهم من
السنة على السكوت عما شجر بينهم، وبيان أن
بهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد(١).

سلكه القرطبي والمازري رحمهما الله. إذ بيّن
ذي وقع بينهم إنما هو بسبب حرصهم على الخير
، فقال: «الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يخافون
يبالون في القيام بالحق، وإن أدى إلى العظائم،
ب التي أوجبت الاختلاف بينهم، حتى أدى ذلك



كل ما سبق بيانه من فضل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومكانتهم، وبيان عدالتهم وعظم الطعن فيهم، يبين لنا الموقف مما وقع بينهم من فتن؛ إذ قد نص أهل السنة على السكوت عما شجر بينهم، وبيان أن الجميع مجتهد: فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد(١).

وهذا هو الذي سلكه القرطبي والمازري رحمهما الله. إذ بيّن القرطبي أن الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو بسبب حرصهم على الخير وشدة تمسكهم بالحق، فقال: «الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون في القيام بالحق، وإن أدى إلى العظائم، وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم، حتى أدى ذلك إلى الحروب العظيمة والخطوب الجسيمة، فإن كل طائفة كانت ترى أنها المصيبة المحقة، ومخالفتها المخطئة، فإنها كانت أمورًا اجتهادية، ولم يكن فيها نصوص قطعية»(٢).

ال
الة
يكن فيها نصوص قطعية»(

وقال أيضًا في بيان
جماعة أهل السنة والحق
وطلب أحسن التأويل لفع
والمجاهرة بذلك، وطلب

امام قرطبی مالکی اور امام مازری کے مطابق صحابہ رضی اللہ
کرام کے درمیان ہونیوالے مشاجرات پر سکوت لازم ہے تعالیٰ عنہم
, صحابہ مجتہد تھے بعض صحابہ اپنے اجتہاد میں مصیب بعض اجتہاد میں خطاء پر تھے....

دعاگو
سمیر القادری



علوم الحديث
لابن الصلاح
الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
ولد سنة ٥٧٧ وتوفي سنة ٦٤٣ هـ
رحمه الله تعالى

تحقيق وشرح
نور الدين عتر



الآيـة . قيل : اتفـق المفسرون على أنه و
ﷺ . وقال تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
علَى النَّاسِ ﴾(١) ، وهـذا خطـاب مـع المـ
سبحـانـه وتعـالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
الكُفَّارِ ﴾ الآيَة(٢) .

ثم إن الأمة مجمعةٌ على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعْتَدُّ بهم في الإجماع ، إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما تَمهّد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ، والله أعلم .

امام ابن صلاح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

یعنی تمام صحابہ کرام کی عدالت اور خیر ہونے پر
امت کا اتفاق ہوچکا ہے, اسی طرح جو صحابہ
کرام اپنے اپنے دور کے فتنوں میں مبتلا ہوئے, اُنکی
عدالت پر بھی قابلِ اعتماد علماء کا اجماع ہے-یہ انکے
ساتھ حسنِ ظن رکھنے اور ان کے ماثر خیر کی طرف نظر کرنے کی بناء پر ہے
اللہ تعالی نے اس مسئلہ پر اجماع مقدر کردیا ہے,اسلئے کہ صحابہ کرام دین کے ناقل اور پہچانے والے ہیں

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیھم الرضوان
اہل خیر واصلاح, عادل ہیں, انکی عدالت پر اجماع منعقد ہوچکا ہے...



شرح السنة

تأليف
إمام أهل السنة والجماعة في عصره
أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري
المتوفى سنة ٣٢٩هـ

دراسة وتحقيق
أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي

مكتبة الغرباء الأثرية



[١٢٠] والكفُّ عن حربِ عليٍّ ومعاوية، وعائشةَ وطلحةَ والزبير [رحمهم الله أجمعين](٣) ومَنْ كان معهم، ولا تخاصم فيهم وكِلْ أمرَهُم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله ﷺ قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني»(٤).

دعاگو

سمیر القادری

= وقال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يفلح صاحب كلام أبداً، علماء الكلام زنادقة».

أخرجه ابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص ٢٠٤)، ط. التركي.



[١٢٠] والكفُّ عن حربِ عليٍّ ومعاوية، وعائشةَ وطلحةَ والزبير [رحمهم الله أجمعين](٣) ومَنْ كان معهم، ولا تخاصم فيهم وكِلْ أمرَهُم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله ﷺ قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني»(٤).

امام بربہاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت علی و معاویہ
اور حضرت علی و عائشہ و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین
کے مابین جو جنگیں ہوئیں ان میں خاموشی لازمی ہے





وإذا ثبت (١) أن الإمامة لم تثبت نصًّا لأحد

ثم المسلمون (٤) أجمعوا على إمامة أبي بكر

بأجمعهم ـ له [من غير مخالفة] (٥).

وكذلك (٦) جرى الأمر في زمن عمر، وعث

ومعاوية ـ وإن قاتل عليًّا ـ فإنه كان لا

وإنما كان يطلب قتلة عثمان [رضي الله عنه]

وعلي ـ رضي الله عنهم (٧) وعنه ـ [١٢٢ و]

فصل

الخلفاء [الراشدون] (٩) لما (١٠) ترتبوا في

الفضيلة.

فخير (١٢) الناس ـ بعد رسول الله [صلى ال

عثمان، ثم علي، رضي الله عنهم أجمعين (١٣)

ومعاوية ـ وإن قاتل عليًّا ـ فإنه كان لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه،
وإنما كان يطلب قتلة عثمان [رضي الله عنه] (٥) ظانًّا أنه مصيب، وكان مخطئاً،
وعلي ـ رضي الله عنهم (٧) وعنه ـ [١٢٢ و] متمسك بالحق (٨).

حضرت معاویہ مولا علی کی امامت کے منکر نہیں تھے بلکہ قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے یہ ان کی اجتہادی خطا تھی اللہ ان سے راضی ہو

---

(١٣) «أجمعين» ساقط من ش.



الجامع لأحكام القرآن

والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان

تأليف

أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي

(ت ٦٧١ هـ)

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

شارك في تحقيق هذا الجزء

محمد رضوان عرقسوسي

دعاگو سمیر القادری

الجزء التاسع عشر

مؤسسة الرسالة



سورة الحجرات، الآية ٩ ٣٨٢

لأن الفتنة لمّا انجلت كان الإمام هو الباغي، ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم.

العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوعٌ به، إذ كانوا كلُّهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عزّ وجل، وهم كلُّهم لنا أئمةٌ، وقد تعبّدَنا بالكفّ عما شجر بينهم، وألا نذكرَهم إلّا بأحسن الذِّكر؛ لحرمة الصحبة، ولنهي النبيّ ﷺ عن سَبِّهم[1]، وأن الله غفر لهم، وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبيّ ﷺ أنّ طلحةَ شهيدٌ يمشي على وجه الأرض[2]، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً، لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأً في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ في طاعة، فوجب حملُ أمرهم على ما بيّنّاه. وممّا يدلُّ على ذلك ما قد صحّ وانتشر من إخبار عليٍّ بأنّ قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بشّر



سورة الحجرات، الآية ٩ ٣٨٢

لأن الفتنة لمّا انجلت كان الإمام هو الباغي، ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم.

العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوعٌ به، إذ كانوا كلُّهم اجتهدوا فيما فعلوه، وأرادوا الله عزّ وجل، وهم كلُّهم لنا أئمةٌ، وقد تعبّدَنا بالكفّ عما شجر بينهم، وألا نذكرَهم إلّا بأحسن الذِّكر؛ لحرمة الصحبة، ولنهي النبيّ ﷺ عن سَبِّهم[1]، وأن الله غفر لهم، وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبيّ ﷺ أنّ طلحةَ شهيدٌ يمشي على وجه الأرض[2]، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً، لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأً في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ في طاعة، فوجب حملُ أمرهم على ما بيّنّاه. وممّا يدلُّ على ذلك ما قد صحّ وانتشر من إخبار عليٍّ بأنّ قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بشّر
قاتل ابن صفية بالنار»[3]. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحةَ والزبيرَ غيرُ عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك، لم يقل النبيّ ﷺ في طلحة: «شهيد»، ولم

رضی اللہ تعالی

امام قرطبی فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کی طرف قطعی طور پر خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں کیونکہ انہوں نے جو عنہم اجمعین

کچھ کیا وہ اجتہاد پر مبنی تھا اور اللہ عزوجل کے لیئے وہ سب صحابہ کرام ہمارے امام ہیں ہم پر فرض ہے کہ مشاجرات پر اپنی

زبان بند رکھیں



الحجة في بيان المحجة
وشرح عقيدة أهل السنة

إملاء
الإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل
ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة ٥٣٥هـ

الجزء الثاني

تحقيق ودراسة
محمد بن محمود أبو رحيم

دار الراية
للنشر والتوزيع

فصل

٥٦٣ - قيل لمّا حضر معاوية رضي الله عن
بالحسين رضي الله عنه وقال: انظر
رسول الله ﷺ فإنّه أحبّ الناس إلى
وداره يصلح لك أمرك.

وما جرى بين عليّ وبين معاوية ر
من السنّة السكوت عمّا شجر بين أصح
الله ﷺ:

٥٦٤ - «إذا ذكر أصحابي فامسكوا» ومعلوم

وما جرى بين عليّ وبين معاوية رضي الله عنهما فقال السلف: من السنّة السكوت عمّا شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ. وقال رسول الله ﷺ:

رضی اللہ عنہم اجمعین

امام قوام السنہ 336ھ فرماتے ہیں حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر سلف کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ

صحابہ کرام کے مشاجرات پر خاموشی اختیار کی جائے

الألباني في الجامع رقم ٥٥٩، والصحيحة رقم ٣٤ وانظر: الزوائد ٢٢٣/٧.
(جـ) ١٨٤/و.



صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ذكرته الآن والله لااقاتلك فرجع يشق الصفوف راكبا فعرض له
ابنه عبدالله فقال مالك فقال ذكرني على حديثا
وسلم يقول لتقاتلنه وانت ظالم له فقال له ابنه انما
حلفت ان لااقاتله قال اعتق غلامك وقف حتى تصلح
(وبنباح كلاب الحوأب على بعض ازواجه) اى
وهو بضم نون وتكسر فموحدة اى صياحها
بين البصرة ومكة نزلته عائشة لما توجهت للصلح
وقعة الجمل (وانه يقتل حولها) اى حول بعض
عنها (قتلى كثير) اى جمع كثير من المقتولين قيل
كثيرة نظرا الى الجماعة (وتنجو بعد ماكادت) اى
عن ابن عباس (فنبحت) بفتح الباء وكسرها اى
خروجها) اى توجهها من مكة (الى البصرة)
الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ماأظنني الا
عليه وسلم قال لنا ايتكن تنبح عليها كلاب الحوأب
(وان عمارا) وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية)
صلى الله تعالى عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية
(اصحاب معاوية) اى بصفين ودفنه على رضى الله
سنة فكانوا هم البغاة على على بدلالة هذا الحديث ونحوه وبحديث اذا اختلف الناس كان

شرح الشفا

للقاضي عياض

شرحه
الإمام الهمام ناصر السنة وقامع البدعة
الملا علي القاري
عليه رحمة الباري

الجزء الثاني

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

ابن سمية مع الحق وقد كان مع على رضى الله تعالى عنهما واما تأويل معاوية اوابن العاص
بان الباغى على وهو قتله حيث حمله على ماادى الى قتله فجوابه مانقل عن على كرم الله وجهه
انه يلزم منه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاتل حمزة عمه والحاصل انه لايعدل عن حقيقة
العبارة الى مجاز الاشارة الابدليل ظاهر من عقل اونقل يصرفه عن ظاهره نعم غاية العذر
عنهم انهم اجتهدوا واخطأوا فالمراد بالباغية الخارجة المتجاوزة لاالطالبة كما ظنه بعض

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:-غایت امر حضرت معاویہ وگروہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اس میں خطاء کی
اور باغیہ سے حدیث عمار میں مراد ایسا خروج کرنے
والے ہیں جو حد سے تجاوز کریں...



http://ataunnabi.blogspot.in

بنام

دفاع حضرت امیر معاویہ

ترجمہ تخریج تحشیہ

محمد مصطفیٰ رضا مصباحی

(مولانا) نعیم الدین رضوی مصباحی

سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے معاملہ کی بشارت چاہ ر

نواں اعتراض: نبی ﷺ نے حضرت ع

جماعت قتل کرے گی"(۱) اسے مسلم نے روایت کیا

جواب: اہل سنت کا اس پر اجماع ہے ک

خروج کیا تھا، انھوں نے امام بر حق کے خلاف علم

تھی، معاف کردی جائے گی۔ ملا علی قاری نے شر

حدیث کی تاویل کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت عثما

گار ہیں۔ لہٰذا ہم "بَغْیْ" سے قصاص کے باغی ہو

دسواں اعتراض: یہ واقعہ کئی طرق سے

عبد الرحمن احمد نسائی سے عرض کیا کہ وہ انھیں

حدیث سنائیں، آپ نے فرمایا: میں حدیث "لا

سے کوئی حدیث نہیں جانتا، اور ایک روایت میں

طرح ارشاد فرمایا تھا، کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات سے خوشی نہ ہوگی کہ وہ سردار بنیں جب

جماعت

جواب: اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا، انھوں نے امام بر حق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا مگر یہ کہ بغاوت اجتہادی تھی، معاف کردی جائے گی۔ ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں ذکر کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تاویل کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کے طلب

لہٰذا ہم "بَغْیٌ" سے قصاص کے باغی ہوئے (جس کا معنی ہے چاہنا طلب کرنا ہے)

امام عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت
علی کی طرف علم بغاوت بلند کیا وہ اجتہاد پر مبنی تھا
معافی کردی جائے گی اسی طرح ملا علی قاری فرماتے
ہیں حضرت معاویہ قصاص عثمان کا مطالبہ کررہے
تھے لفظ باغی بمعنیٰ طلب کرنا



دعاگو نعمان علی
سمیر القادری

غوث
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ
کی مشہور زمانہ تصنیف
الغنیۃ لطالب طریق الحق
مشہور بہ
غنیۃ الطالبین
کا
اردو ترجمہ
جس میں انداز بیان کا لطف اور سلاست زبان کا کیف ہر ہر سطر میں موجود ہے
بہ تبویب و ترتیب خاص
از
ادیب شہیر حضرت شمس صدیقی بریلوی فاضل شرقیات
[illegible]
ارشد برادرس
۱۵۶۱ سیکنڈ فلور گلی کوتانہ۔ سوئیوالان۔ نئی دہلی ۲

اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ
السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى
سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ٥

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں جو تنگی اور فراخی میں غار میں اور بدر کے
اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ حضرت عمر بن الخطابؓ ہیں اور رُحَمَآءُ بَ
حضرت علیؓ ابن ابی طالب ہیں وَيَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْ
حضرت زبیرؓ ہیں اور سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ سے
ابوعبیدہؓ بن الجراح (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) یہ دسوں حضرات ایسے
اَخْرَجَ شَطْاَهٗ میں شطأ (کھیتی کی سب سے پہلی نکلنے والی کونپل یا انکوا
سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول
رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اس سوئی یعنی رسول اللہ کی موٹائی (یعنی طاقت)
کے
اچھی

اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف ہے اُن سے زبان کو روکا جائے (اس میں بحث و گفتگو نہ کی جائے) صحابہؓ کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل و محاسن کو بیان کرنا اور ان کے (باہمی اختلافی معاملے کو خدا کے سپرد کرنا واجب ہے جس طرح بھی ان کا وقوع ہوا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہؓ کے درمیان اختلاف واقع ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس اختلاف پر بحث نہ کرے اور زبان کو بند رکھے) ہر صحابی کی بزرگی اور فضیلت کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

رحمتہ اللہ علیہ

حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اہلسنت کا اتفاق ہے جن باتوں میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے اُن سے زبان کو روکا جائے صحابہ کرام کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے ان کے فضائل و محاسن بیان کیئے جائیں اور ان کے معاملے خدا کے سپرد کرنا واجب ہے

رضی اللہ عنہم اجمعین

دعاگو
نعمان علی
سمیر القادری



الأحاديث النبوية
في
فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

لفضيلة الشيخ
محمد الأمين الشنقيطي

وبهامشها
منحة ذي الجلال في التعليق على
فضائل معاوية بن أبي سفيان
وإبطال حجج الرافضة وأهل الضلال

بقلم
عمرو عبد المنعم سليم

دار الضياء
للنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرح

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، و

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنه من ي

يُضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و

أما بعد :

فإن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان

فإنهم قد ناصبوه العداء كما ناصبوا كثيراً

والكراهة والذم ، ذلك العداء الذى لم يسل

ومن الرجال كأبيها أبي

ة النبي ﷺ والخوض في

ل الحديث وعوام الأمة

الترضي على صحابة النبي ﷺ ، والترحم عليهم ، وعدم الخوض فيما



حتى صار من شعارهم الوقيعة في صحابة النبي ﷺ والخوض في أعراضهم ، ومن شعار أهل السنة والسلف وأهل الحديث وعوام الأمة الترضي على صحابة النبي ﷺ ، والترحم عليهم ، وعدم الخوض فيما شجر بينهم، فهم ما بين مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد مخطئ فله أجرٌ واحدٌ ، وكلهم مشمول بالثناء الحسن والترضي والتقدمة بنص الكتاب والسنة المشرفة .

صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان میں وہ مجتہد تھے اور جنہوں نے غلطی کی وہ ایک اجر کا مستحق ہے اہلسنت و الجماعت و سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے.....



الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ٣٢٧

المكتبة الفلسفية

كتاب الإرشاد

إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد

لإمام الحرمين الجويني

(٤١٩-٤٧٨هـ)

ضبط وتحقيق

الأستاذ الدكتور
أحمد عبد الرحيم السايح

المستشار
توفيق علي وهبة

الناشر
مكتبة الثقافة الدينية

المخالف غير جائز، وقد حصل
الإمامين شسوع النوى فللاحتمال

[في

من انعقدت له الإمامة بعقد
حدث وتغير أمر، وهذا مجمع ع
الإمامة بفسقه، فانخلاعه من غير
خلعه، وامتناع ذلك، وتقويم أو
ذلك من المجتهدات عندنا فاعلم

وخلع الإمام نفسه من غير س
عليه السلام نفسه فذلك ممكن

حم

من شرائط الإمام أن يكون من أهل الاجتهاد، ب
غيره في الحوادث وهذا متفق عليه. ومن شرائط الإم
متصديًا إلى مصالح الأمور وضبطها، ذا نجدة في تجها
وذا رأي حصيف في النظر [illegible]

[الإمامة]

امام الحرمین جوینی امام کی شرائط میں سے اسکا اہل اجتہاد سے ہونا ہے.. (امام حسن کے بعد معاویہ کی امامت پر امت کا اجماع ہوا معلوم ہوا حضرت معاویہ مجتہد تھے ورنہ امام حسن ان کو کبھی بھی خلافت نہ سونپتے)

مأجور لاجتهاده ونيته فى طلب الخير ، فبهذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامته ، وأنه صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، وقطعنا أن معاوية رضى الله عنه ومن معه مخطئون مأجورون أجرا واحدا . وأيضا فالحديث الشريف الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتين بالحق ، فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج ، بين أصحاب على [illegible] بالحق ، وأيضا الخبر الصحيح عن رسول الله ﷺ

قال أبو محمد : المجتهد المخطىء إذا قاتل على

عالم بأنه مخطىء فهو فئة باغية ، وإن كان

وأما إذا قاتل وهو يدرى أنه مخطىء فهذا محارب

لا المجتهد المخطىء ، وبيان ذلك قول الله تعالى :

فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى

اخوة فأصلحوا بين أخويكم[47] ﴾ .

فهذا نص قولنا دون تكلف تأويل ولا

عز وجل مؤمنين باغين بعضهم إخوة بعض فى

بالإصلاح بينهم ، وبينهم ، ولم يصفهم الله عز وجل

وإنما هم مخطئون فقط باغون ولا يريد واحد منهم

يسار ابن سبع السلمى[48] ، شهد بيعة الرضوان ،

وأنزل السكينة عليه ورضى عنه ، فأبو العادية رضى

أجرا واحدا ، وليس هذا كقتلة عثمان رضى الله

أحدا و لا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد

فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون .



الفصل
فى
الملل والأهواء والنحل

تأليف
الإمام أبى محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري
المتوفى سنة ٤٥٦ﻫ

الجزء الرابع

تحقيق

الدكتور محمد إبراهيم نصر
كلية اللغة العربية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الدكتور عبد الرحمن عميرة
عميد كلية أصول الدين
جامعة الأزهر - فرع أسيوط

دار الجيل
بيروت

امام ابن حزم متوفی 456ھ فرماتے ہیں ہم قطعی طور
پر کہتے ہیں کہ حضرت علی صواب پر تھے انکی
امامت صحیح تھی وہ صاحب حق تھے انکے لئے دو
اجر ہیں ایک اجتہاد کا اجر دوسرا اجتہاد میں مصیب
ہونے کا اجر، اور ہم قطعی طور پر کہتے ہیں کہ حضرت
معاویہ اور انکے ساتھی (اجتہاد میں) مخطی تھے مگر (اللہ کیطرف سے) اجر دئے گئے ایک اجر...

رضی اللہ
تعالٰی عنہم



إرشاد الساري
لشرح صحيح البخاري

تأليف
الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني
المتوفى سنة ٩٢٣ هـ.

ضبطه وصححه
محمد عبد العزيز الخالدي

الجزء الثاني
يحتوي على الكتب التالية:
الصلاة - مواقيت الصلاة - الأذان - الجمعة - الخوف - العيدين

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

وبه قال: (**حدّثنا مسدد**) هو ابن مسرهد الأسدي البص
الدباغ الأنصاري البصري (**قال: حدّثنا خالد الحذاء**) بفتح ا
عكرمة) مولى ابن عباس.

(**قال لي ابن عباس**) عبد الله رضي الله عنهما (**ولابنه**)
الحسن العابد الزاهد المتوفى بعد العشرين والمائة، وكان مولد
عنه فسمي باسمه، وكان فيما قيل أجمل قرشيّ في الدنيا (**انطل**
(**فاسمعا**) ولأبي ذر واسمعا (**من حديثه فانطلقنا فإذا هو**)
(**يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى**) بالحاء المهملة والموحدة أي جمع
أنشأ) أي شرع (**يحدّثنا حتى أتى ذكر**) وللأربعة وكريمة حتى
الكشميهني حتى أتى على ذكر (**بناء المسجد**)النبوي (**فقال**)
اللام وكسر الموحدة الطوب النيء، (**وعمار**) هو ابن ياسر يح
وزاد معمر في جامعه لبنة)عنه ولبنة عن رسول الله ﷺ (**ف**
رضي الله عنه (**فينفض**) بصيغة المضارع في موضع الماضي لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه

عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، (**ويدعونه إلى**) سبب (**النار**) لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم لأنهم كانوا مجتهدين ظانّين أنهم يدعونه إلى الجنة، وإن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم، فإن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وأعيد الضمير عليهم وهم غير مذكورين صريحًا، لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما، وثبت في نسخة الصغاني المقابلة على نسخة الفربري التي بخطه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم، والفئة: هم أهل الشام وهذه الزيادة حذفها المؤلف لنكتة وهي أن أبا سعيد

نفس الامر بخلاف ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم، فإن المجتهد إذا اصاب فله اجران وإذا

امام قسطلانی فرماتے ہیں:
لیکن (حضرت معاویہ) کا گروہ معذور تھا کیونکہ جو
تاویل انکے لئے ظاہر تھی کیونکہ وہ مجتہد تھےوہ
اسکے سبب یہ ظن رکھتے تھے کہ وہ جنت کیطرف
بلا رہے ہیں جبکہ نفس الامر اسکے خلاف ہو لیکن اُن پر
کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ظن کی پیروی
کررہے تھے, اور مجتہد اگر صائب ہو تو اسے دو اجر ہیں اور اگر خطاء کرے تو ایک اجر ہے

رضی اللہ
تعالیٰ عنہم

89 الباب الخامس : في ذكر النبوة


العَقِيدَةُ السَّفَارِينِيَّة

« الدُّرَّةُ المُضِيَّةُ فِي عَقْدِ أَهْلِ الفِرْقَةِ المَرْضِيَّة »

للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني

مع شرح وجيز مختصر يحل المشكل من عباراتها

اعتناء وشرح وتعليق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

أضواء السلف

١٦١ـ مَا قَدْ رَبَا مِنْ أَنْ يُحِيطَ نَ

عَنْ بَعْ

١٦٢ـ واحْذَرْ مِنَ الخَوْضِ الَّذِي قَدْ

بِفَضْلِهِ

١٦٣ـ فَإِنَّهُ عَنِ اجْتِهَادٍ قَدْ

فَاسْلَمْ

١٦٤ـ وَبَعْدَهُمْ فـ « التَّابِعُونَ » أ


عن بعضِهِ فاقنع وخذ عن عِلْم

١٦٢ـ واحذرْ مِنَ الخوْضِ الذي قد يُزري
بِفَضْلِهِم مِمَّا جرى لو تدري

١٦٣ـ فإنَّهُ عن اجتهادٍ قد صدرْ
فاسلمْ أذلَّ اللهُ مَنْ لهم هجرْ

في ذكر كرامات

١٦٥ـ وَكُلُّ « خَارِقٍ » أَتَى عَنْ صَالِحِ
مِنْ تَابِعٍ لِشَرْعِنَا وَنَاصِحِ

امام سفارینی فرماتے ہیں :-

صحابہ کے فضل کیوجہ سے انکے مابین جو کچھ
ہوا اس میں غوروخوض منع ہے جو کچھ ہوا اجتہاد
کے سبب ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین

أمّه ، عن أمّ سلمة : « تقتل عماراً الفئةُ الباغيةُ » .

وقد فَسّر الحسنُ البصري الفئة الباغية بأهل الشام : معاوية وأصحابه

وقال أحمد : لا أتكلمُ في هذا ، السكوتُ عنه أسلم .

وقول النبي ﷺ في بناء المسجد : « وَيْحَ عمار ، يَ



فتح الباري
في شرح صحيح البخاري

للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن
ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي
الشهير بابن رجب الحنبلي
٧٣٦ - ٧٩٥ هـ

تحقيق
أبي معاذ
طارق بن عوض الله بن محمد

المجلد الثاني

دار ابن الجوزي

أول أمره(١) :

« اللهم إنّ العيشَ عيشُ الآخِ

ومثل ارتجازه عند حفرِ الخندق بقو

« اللهم لولا أنت ما اهتدينا

ورَوَى محمد بن سَعْد(٢) : أبنا

عبد الله بن أبي الهُذيل ، قال : لما ب

يحملون ، وجعل النبيُّ ﷺ يحمل هو و

نَحْنُ المُسْلِمو

وجَعَلَ رسولُ الله ﷺ يقول : «ال

وقد كان عمّارٌ اشتكى قبل ذلك ،

فسمعهم النبيُّ ﷺ ، فنفضَ لَبِنَتَه ، وق

« يا بنَ سُمَيّة ، تقتُلُكَ الفئةُ الباغية » .

ابن رجب حنبلی نے امام احمد بن حنبل کا مذہب سکوت قرار دیا ہے... رحمہما اللہ


دعاگو
سمیر القادری

صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزء الخامس عشر
الطبعة الأولى
١٣٤٩ هجرية — ١٩٣٠ ميلادية

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ ج

الأطراف والأرذال تحزبوا وقصدوه من مصر فعجز

حتى الله عنه بخلافته

لا ول

عنهم وما رج شىء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون

اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا

البغاة عليه فكلهم معذورون رضى الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به فى الاجماع على

قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضى الله عنهم أجمعين

وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن

اہل حق کا اجماع ہے
کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں

امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں باغی سب کے
معذور تھے اللہ ان سب سے راضی ہو اور سب اہل
حق کا آپس میں اجماع ہے کہ صحابہ کرام سے اگر
بغاوت ہوئی ہو جب بھی انکی گواہی روایات مقبول ہیں
اور وہ سب عادل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ

مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَ

صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزء الخامس عشر
الطبعة الأولى
١٣٤٩ هجرية — ١٩٣٠ ميلادية

الأطراف والأرذال تحزبوا وقصدوه من مصر فعجز

حتى

تمام صحابہ کرام مجتہد تھے

اختلفوا فى مسائل من محل الاجته كما يختلف المجتهدون بعدهم فى مسائل من الدماء وغيرها ولا

لا خلافة لغيره واما معاوية رضى الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضى الله عنه واما الحروب التى جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول رضى الله عنهم ومتأولون فى حروبهم وغيرها ولم يخرج شىء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا فى مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم فى مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرف

حضرت امیر معاویہ عادل نجباء اور فاضل صحابہ میں سے ہیں
اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اور سب سمجھتے تھے کہ
وہ حق پر ہیں اور سب صحابہ عادل ہیں سب صحابہ تاویل پر
تھے ان جنگوں میں اور کوئی بھی عدالت سے نہیں نکلتا کیونکہ
وہ مجتہد تھے اور ان کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے مسائل میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے

رضی اللہ عنہم اجمعین



﴿الجزء الرابع والعشرون من﴾

كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي

وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا وبالأصول أيضا سميت
صنفها محمد الشيباني * حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير
ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط
ويجمع الست كتاب الكافي * للحاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالشمس * مبسوط شمس الأمة السرخسي

﴿تنبيه﴾ قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

دار المعرفة
بيروت ـ لبنان

معاوية رضى الله عنه ماقال عن اعتقاد و
كاتب الوحى وكان أمير المؤمنين وقد أخبر
له عليه السلام يوما اذا ملكت أمر أمتى فأ
رضى الله عنه ومضي مدة الخلافة فكان
واجب عليه من الانقياد له لايجوز أن يقال
الفضل رحمه الله كان ينال منه فى الابتد
موضع قدمه فهو يطؤها وتألم من ذلك وتق

التقية وانه يرخص له فى ترك بعض ماهو
من ايراد الحديث ان سير ... فى القتل
لانه قال لو علمت انه يقت ... أن فتنة
السوط أشد من فتنة ... على فى

حضرت معاویہ کاتب وحی
اور امیر المؤمنین اور کبار صحابہ
میں سے ہیں



معاوية رضى الله عنه ماقال عن اعتقاد وقد كان هو من كبار الصحابة رضى الله عنهم وكان
كاتب الوحى وكان أمير المؤمنين وقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك بعده فقال
له عليه السلام يوما اذا ملكت أمر أمتى فاحسن اليهم الا أن نوبته كانت بعد انتهاء نوبة على
رضى الله عنه ومضي مدة الخلافة فكان هو مخطئا فى مزاحمة على رضى الله عنه تاركا لما هو
واجب عليه من الانقياد له لايجوز أن يقال فيه أكثر من هذا ويحكى أن أبا بكر محمد بن

امام سرخسی حنفی فرماتے ہیں معاویہ کبار صحابہ
میں سے ہیں کاتب وحی تھے وہ امیر المؤمنین تھے
رسول اللہ ﷺ نے ان کی بادشاہت کی خبر دی تھے
جیسا کہ فرمان ہے کہ جب تمھیں بادشاہت ملے تو احسان
کرنا اور ان کی حکومت حضرت علی کے بعد ہے اور وہ
حضرت علی سے مزاحمت میں (مجتھد) مخطی تھے اور
اس بارے میں اس سے زیادہ بولنا درست نہیں

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://ataunnabi.blogspot.com/



فتاویٰ نوریہ

جلد اوّل

تصنیف
شیخ الحدیث فقیہ اعظم مولانا الحاج ابوالخیر محمد نور اللہ صاحب النعیمی القادری
بانی دار العلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور

ترتیب و تدوین
استاذ الفقہ والحدیث حضرت مولانا مفتی الحاج ابوالفضل محمد نصر اللہ صاحب نوری
رحمہ اللہ تعالیٰ

ناشر
شعبہ تصنیف و تالیف دار العلوم حنفیہ فریدیہ
بصیر پور، ضلع اوکاڑہ

Click For More
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نمبر۲ : جو شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان

گستاخی کرے اور فاسق تک کہے کیا وہ

مخلص : محمد سرو

خطیب

جو صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
کی گستاخی کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا
مکروہ تحریمی ہے



السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ، اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ اظہر من الشمس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد الانبیاء والرسل افضل البشر ہیں اور یونہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی اور واجب الاحترام ہیں لہٰذا ایسے شخص کے پیچھے سنی کی نماز مکروہ تحریمہ اور واجب الاعادہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

العبد الفقیر ابوالخیر محمد نور اللہ النعیمی غفرلہ
۲۳ رجب المرجب ۱۳۸۹ھ ۶-۱۰-۶۹

**شیخ الحدیث مفتی ابوالخیر نور اللہ نعیمی فرماتے ہیں
جو شخص معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ فاسق
کہے یا گستاخی کرے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی
واجب الاعادہ ہے**



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فرقہ وہ ہے جو باطل تاویل سے امام کی مخالفت کرے اور اس کی اطاعت
خارج ہو جائے جنت اور دوزخ سے مراد ان کے اسباب ہیں اور وہ
حضرت عمار کو قتل کرنے والے خارجی تھے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ خوارج کی
کے درمیان تحکیم مقرر کرنے کے بعد ہوئی تھی" اور یہ تحکیم صفین کی جنگ ختم
عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے [illegible]

عنہا کے درمیان صفین کی جنگ اجتہادی جنگ تھی۔ وہ سب مجتہد تھے
معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور لشکر یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور
بُلا رہے ہیں۔ اگرچہ نفس الامر میں واقعہ برعکس تھا انہی کے ہاتھوں حضرت
نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ اپنے ظنون کی اتباع جس کو وہ صحیح سمجھ
الامر میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس لئے ان کے

صحیح یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان صفین کی جنگ اجتہادی جنگ تھی۔ وہ سب مجتہد تھے ہر ایک اپنے کو حق پر جانتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور لشکر یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو جنت یعنی طاعت کی طرف بُلا رہے ہیں۔ اگرچہ نفس الامر میں واقعہ برعکس تھا انہی کے ہاتھوں حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مگر ان کو ملامت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ وہ اپنے ظنون کی اتباع جس کو وہ صحیح سمجھ رہے تھے، میں برسرپیکار تھے چونکہ نفس الامر میں حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس لئے ان کے مخالفین کو فئہ باغیہ سے پکارا گیا ہے۔ مگر ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ کے مقدس خطاب سے یاد فرمایا ہے اور ان کی فضیلت کی شہادت دی ہے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے یہ دُعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور اس کے باعث لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فقیہہ کہا (ترمذی)

اس حدیث شریف میں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی ایک جھلک ملتی ہے کہ آپ نے مستقبل میں ہونے والی

مخالفین کو فئہ باغیہ سے پکارا گیا ہے
ساتھیوں کے بارے میں کسی بدگمانی
کو کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ کے مقدس خطا
صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ
باعث لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت
اس حدیث شریف میں سرورِ کائنات صلی

مُصیب تھے اور ان لوگوں کی تردید
جائز ہے اور یہ جو حدیث میں آیا ہے

شیخ الحدیث علامہ غلام رضوی فرماتے ہیں حضرت
علی و معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھیں وہ سب مجتہد تھے اور اپنے آپ کو حق پر جانتے
تھے. مولا علی حق پر تھے (اور حضرت معاویہ کی
خطا اجتہادی تھی) اور ہمارے لئے مناسب نہی کہ ہم امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بدگمانی کا
شکار ہوجائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے
صحابہ کو کنتم خیر امہ کا خطاب فرمایا ہے..






نہیں سمجھتا مگر دنیاوی جھگڑے میں اسے قتل کر دیا۔ یہ کفر نہیں ہے بلکہ فسق اور گناہ کبیرہ ہے جیسے حلال نہ سمجھتے ہوئے شراب پینا اور نماز کا قصداً ترک کرنا۔ اور تیسری صورت خطائے اجتہادی سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا۔ یہ نہ کفر ہے نہ فسق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ اسی تیسری قسم میں داخل ہے۔ آپ مجتہد تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔


اگر ہمارا یہ جواب معترض کو تسلیم نہیں تو پھر یہی اعتراض حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوگا کہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ میں بے شمار مومنوں کو قتل کیا اور کرایا۔ خدائے عزوجل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے ہیں
تیسری صورت خطائے اجتہادی سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا نہ کفر ہے نہ فسق اور حضرت معاویہ کی جنگ اس تیسری قسم میں داخل ہے آپ مجتہد تھے اور جب مجتہد خطا کرے تو کوئی مؤاخذہ نہیں۔ اور اگر ہمارا یہ جواب معترض کو کو تسلیم نہیں تو پھر یہی اعتراض مولا علی پر ہی ہوگا کہ انہوں نے حضرت عائشہ و امیر معاویہ کی جنگوں میں بے شمار مسلمانوں کو قتل کروایا



رضی اللہ عنہم

جب امیر معاویہ سے امام حسن
نے صلح کرلی تو امیر معاویہ کی خلافت
برحق ہوگئی یہی مذہب اہلسنت
ہے

نمبر ۱۱: نہایت ضروری اور اشد لازم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کے متعلق ہم کچھ رائے زنی نہ کریں نہ ان میں سے کسی کو برا سمجھیں۔ سب کو سچا پکا پرہیزگار یقین کریں اور اگر ضرورتاً اس کے متعلق گفتگو کرنا پڑ جائے تو خیال رکھو کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں خلیفہ برحق تھے ان کے مقابل آنے والے تمام صحابہ کرام غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے مقابل بغاوت کر بیٹھے جن میں سے بعض حضرات اپنی غلطی پر مطلع ہو کر بعد میں تائب ہو گئے۔ جیسے ام

غرض یہ کہ باغی اور خارجی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ فرق ضرور خیال میں رہنا چاہیئے۔ نہروانی لوگ خارجی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھیوں سے غلط فہمی کی بنا پر بغاوت واقع ہوئی۔ پھر جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ تب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین برحق ہوئے یہ ہی مذہب اہل سنت ہے۔

رضی عنہم اجمعین

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کے متعلق کچھ رائے نہ دیں نہ ان کو برا سمجھیں حق علی کی طرف تھا اور باقیوں کی خطا تھی ان صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی کی بنا پر بغاوت ہوئی. پھر جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کرلی تب امیر معاویہ خلیفہ برحق ہوگئے یہی مذہب اہلسنت ہے



حضرت معاویہ رض کی اجتہادی خطا بہرحال اس معاملہ میں حضرت معاویہ رض سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ باغیوں کی حضرت عثمان رض پر زیادتی مسلم ہے، جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور انہوں نے بیعت کر لی، تو بغاوت خلیفہ



السیف المسلول

السنة العلیاء الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا

تالیف

علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ، تحریر، تبویب

مولانا محمد شفیق اثری

ناشر

فاروقی کتب خانہ ملتان

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں بہر حال اس

رضی اللہ عنہ

معاملے میں حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی

رضی اللہ عنہ

باغیوں کی حضرت عثمان پر زیادتی مسلم ہے



السیف المسلول

تالیف

علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی

فاروقی کتب خانہ ملتان

حضرت معاویہ پر کفر کا الزام عائد کرنے
سے بندہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے



اس نزاع نے ایمانِ معاویہ پر کوئی اثر نہ ڈالا؟

چونکہ حضرت معاویہؓ کا ارادہ بغاوت کا نہ تھا، بلکہ طلب قصاص کی بنا پر ایک اجتہادی غلطی کے مرتکب ہوئے، اس میں ان کو ایک ثواب ملے گا، اس بنا پر معاویہؓ اور ان کے ساتھی گنہگار نہیں قرار دیئے جا سکتے۔

اگر بالفرض حضرت معاویہؓ نے عمداً اور دیدہ دانستہ بغاوت کی تھی، تو بھی ان پر اس درجہ سے کفر کا فتویٰ عائد نہیں کیا جا سکتا، کہ پھر قرآن پاک کی اس آیت سے انکار

قاضی ثناءاللہ پانی پتی فرماتے ہیں حضرت معاویہ کا ارادہ بغاوت نہیں تھا بلکہ قصاص عثمان طلب کر رہے تھے جس کی
وجہ سے اجتہادی غلطی کے مرتکب ہوئے اس میں ان
کو ایک اجر ملے گا اور ان کے ساتھی گنہگار قرار نہیں دیئے جائیں گے اور اگر کوئی امیر معاویہ پر گستاخی کا فتویٰ عائد کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہوگا

روحه : ومن رضى بقتل عمار رضى الله عنه كان حكمه حكمها أى حكم
الفئة الباغية التى قتلته ، ويروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاء
به الى منون مقاتله فما قتله الا ال
بقوله فرسول الله صلى الله عليه
المشركين ، ولا يخفى أن حجة م
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس
الله عنه هذا هو الصواب . انتهى
والصواب مع أمير المؤمنين أبى ا
أبي طالب رضوان الله عليهم أجم


كتاب
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية
لشرح
الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية

تأليف
العالم الطويل الباع الواسع الاطلاع صاحب البرهان الجلي
الشيخ محمد بن احمد السفاريني الأثري الحنبلي
رحمه الله تعالى

الجزء الثاني

أضيف تعليقات هذا الكتاب من التعليقات التي علق بها على النسخة المخطوطة
مفتي الديار النجدية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين المتوفى عام ١٢٨٢ الهجرية
والشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله أجزل الثواب ..

وأما معاوية رضى الله عنه فهو
حق
فى قال
ألس تل
أط له
الش يط

رضی اللہ عنہ
امیر معاویہ
مجتہد تھے

أمير البيعة كما فعل الناس ثم يحاكم المدعى عليهم
عندى فاحكم بما أنزل الله ،فأبى معاوية حتى جرى ماجرى ولا حول ولا
قوة الا بالله العلى العظيم وكان أهل الشام يسمون قتل عمار فتح الفتوح

وأما معاوية رضى الله عنه فهو مجتهد مخطىء وليس له يومئذ في الخلافة
حق ومن ثم قال له أبو مسلم الخولانى أنت تنازع عليا

امام السفارینی حنبلی فرماتے ہیں
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مخطیٔ تھے

وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ، ولكفّ المسلمين أيديهم عنهم ، وذلك مخالف لقوله ﷺ: « خذوا على أيدى سفهائكم » (١) . قال ابن العربى : هذه الآية أصل فى قتال المسلمين ، وعمدة فى حرب المتأوّلين ، وعليها عوّل الصحابة ، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة ، وإياها عنى النبى ﷺ بقوله: « تقتل عماراً الفئة الباغية » (٢) وقوله ﷺ فى شأن الخوارج : « يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحقّ » .

الاستهزاء . وحكى أبو زيد : سخرت به وضحكت به وهزأت به ، وقال الأخفش : سخرت
منه وسخرت به ، وضحكت منه ، وضحكت به ، وهزأت منه وهزأت به ، كل ذلك يقال ،
والاسم السخرية والسخرى، وقرئ بهما فى: ﴿ ليتخذ بعضهـ
٣٢] ومعنى الآية : النهى للمؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعـ
﴿ عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴾ أى أن يكون المسخور بهم عند
ولما كان لفظ قوم مختصا بالرجال ؛ لأنهم القوّم على النساء
نساء من نساء ﴾ أى ولا يسخر نساء من نساء ﴿ **عسى أن يكنّ** ﴾
يعنى: خيراً من الساخرات منهنّ . وقيل: أفرد النساء بالذكر
تلمزوا أنفسكم ﴾ اللمز : العيب ، وقد مضى تحقيقه فى سورة
يلمزك فى الصدقات ﴾ [التوبة : ٥٨] قال ابن جرير : اللمز
والهمز لا يكون إلا باللسان . ومعنى ﴿ **لا تلمزوا أنفسكم** ﴾
قوله : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [النساء : ٢٩] وقوله : ﴿
٦١] قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لا يطعن بعضكم عل
يلعن بعضكم بعضا ﴿ **ولا تنابزوا بالألقاب** ﴾ التنابز : التفاعل
والنبز بالتحريك اللقب ، والجمع أنباز ، والألقاب جمع لقب
الإنسان ، والمراد هنا: لقب السوء ، والتنابز بالألقاب أن يلقب
قال المفسرون :هو أن يقول لأخيه المسلم :يا فاسق يا منافق ، أو يقول لمن أسلم : يا يهودى ،



فتح القدير
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
تأليف
محمد بن علي بن محمد الشوكاني
المتوفى بصنعاء ١٢٥٠هـ
حققه وخرج أحاديثه
الدكتور عبد الرحمن عميرة

علامہ شوکانی ابن العربی کے حوالے سے لکھتے ہیں یہ
آیت مسلمانوں کے قتال کی اصل ہے اور بہت عمدہ تاویل
جنگ کرنے والوں کے بارے میں اور وہ صحابی جو تاویل
پر تھے

حقا لعلمه ان ذلك ليس بوقت قي

وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه

صار الامر اليه واظهر واعلن

السداد والرشاد كما مضى من قبل

على السداد والرشاد متبعين لكتا

الائمة الأربعـة المجمـع عـلى ع

عنهم . وقد روى شريح بن ال

نباته عن سعيد بن جمهان قال:


شرح الفقه الأكبر
المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
(٨٠-١٥٠هـ)
(٣٣٣هـ)

ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك »

الزبير وعائشة رضي الله خلافة

عنهم فاما كان على يل واجتهاد وعلي الامام وكلهم من وجدتها

اهل الاجتهاد ، وقد شهد لهم النبي ﷺ بالجنة والشهادة فدل

على انهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم ، وكذلك ما جرى رضي

بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد الله

وكل الصحابة ائمة مأمونون غير متهمين في الدين وقد اثنى هم من

امام ابو منصور ماتریدی السمرقندی 333ھ فرماتے ہیں امیر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی

امام ابو منصور ماتریدی السمرقندی 333ھ فرماتے ہیں حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا اور حق مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی تھی

جواب : یہ جو آیت ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا آخر آیت تک تو مراد اس کر
یہ ہے کہ جو حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے اور وہ حکم ناسخ حکم منسوخ سے بہتر
ہے باعتبار فائدہ کے حق میں عباد کے۔ اور باعتبار ثواب کے۔ یا حکم منسوخ کے برابر ہوتا ہے حق میں عباد کے باعتبار
نفع اور ثواب کے۔ تو متعہ کے حلال ہونے کا حکم منسوخ ہوا۔ اور اس حکم حل متعہ کے عوض میں یہ دوسرا حکم ہوا کہ متعہ حرام
تو جیسا کہ حلال ہونا اللہ تعالے کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ [illegible]
دوسرا حکم ہے اور متعہ کے حلال ہونے سے متعہ کا حرام ہونا حق
وکفو ہونا محرم کا اور توارث یہ امور متعہ کے حلال ہونے کی صورت
میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حکم ناسخ جنس سے حکم منسو
کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے اس حکم ناسخ سے کسی چیز کا حلا
سے کسی چیز کا حلال ہونا منسوخ کیا جائے تو اس حکم ناسخ سے اسی
شراب اور قمار کے حرام ہونے کے عوض میں کوئی دوسری چیز


ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

فتاویٰ عزیزی

سعید کمپنی

رضی اللہ عنہ
حضرت معاویہ کی
خطاء اجتہادی تھی

ہوا۔ تو اس کے عوض میں طلاق حلال ہوئی۔ اور تفصیل
اس مقام کی تفسیر فتح العزیز میں منشی منہاج الدین نے اس کی نقل لکھوائی تھی اس آیت کی تفسیر میں
کی شان بعض احادیث بھی وارد ہیں۔ آنجناب کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔

علماء ماوراء النہر اور مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رض کے حرکات جنگ و جدل جو حضرت
علی رض کے ساتھ ہوئیں۔ وہ صرف خطاء اجتہادی کی بنا پر تھیں محققین اہل حدیث نے بعد تتبع روایات ثابت

بدسلوکی کی حضرت امام حسین رض اور اہل بیت کے ساتھ اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا۔ اس خیال

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں مفسرین و فقہا کہتے
ہیں حضرت معاویہ کی جو جنگیں حضرت علی کے ساتھ ہوئیں
وہ صرف خطائے اجتہادی کی بنا پر تھیں



شرح

العقيدة الطحاوية

المسماة «بيان السنة والجماعة»

حققه وعلق عليه

محمد مطيع الحافظ

محمد رياض المالح

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً

﴿ وأجراً عظيماً ﴾ [الفتح : ٢٩] وقوله

ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر

لومة لائم ﴾ [المائدة : ٤] الآية وقوله

﴿ هم الصادقون ﴾ [الحشر : ٨] وإلى غير

عن عبد الله بن مغفّل رضي الله عنه قال

لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي

ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد

يأخذه » (٢٥٩) (و) لكن (**لا نفرط في**

منهم) كما وقع لغلاة الروافض قبحهم الله

النبي ﷺ فقبحهم الله تعالى ويكفي في

الرد عليهم قوله تعالى : ﴿ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا

والآخرة ﴾ [الأحزاب : ٥٧] كذا ذكره المنلا الياس الزاهد (**ونبغض من**

يبغضهم) أو واحداً منهم ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم فإنه الذي أدى إليه

اجتهادهم قال ابن دقيق العيد في عقيدته : وما نقل فيما بينهم واختلفوا فيه فمنه

صحابہ کرام کے درمیان
جو کچھ وہ اجتہاد پر مبنی تھا

امام عبدالغنی الحنفی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان
جو کچھ ہوا وہاں سکوت لازم ہے کیونکہ وہ محض اجتہاد کی بنا پر تھا

فتحدث ، ثم استأذن عمر ، فأذن له وهو كذلك ، فتحدّث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوّى ثيابه ، فدخل فتحدثّ ، فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر



تباله ،/ثم دخل عمرفلم تهتش ولم تباله/، ثم دخ
وسوّيت ثيابك ؟ فقال : « ألا أستحي من رجل تست
وفي « الصحيح » : لما كان يوم بيعة الرضوان ، و
عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى م
الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكة ، فقال رسو
وسلم/بيده/ اليمنى : « هذه يد عثمان ، فضرب ب
هذه لعثمان »(٢) .

قوله : (ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه) .

ش : أي : وتثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي
عثمان
زمانه
قال رس ـوة ثلاثون سنة ، ثـم
يؤتي ال

مسلمانوں کے سب سے
بہترین بادشاہ امیر معاویہ

سنين وتسعة أشهر ، وخلافة الحسن ستة أشهر . وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه ، وهو خير ملوك المسلمين ، لكنه إنما صار إماماً حقاً لما فوّض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة ، فان الحسن

حقاً لما فوّض اليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة ، فإن الحسن

رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ، ثم بعد ستة أشهر فوّض

امام ابن ابی العز حنفی 792ھ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں اور وہ مسلمانوں کے سب سے بہتر بادشاہ ہیں

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم ایمان اتباع اور اسلام ہے



نام و نسب

حضرت غوثِ اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ
کے
نام و نسب کی تحقیق

سید نصیر الدین نصیر گیلانی

گیلانی پبلشرز ○ درگاہ گولڑہ شریف

Marfat.com



بہرحال وہ جملہ اُمور اور بدعات جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں،
لائقِ تحسین انصاف و دانش مندی نہیں اور اِن سب کے باوجود جناب معاو
خارج کرنا یا دُور از کار تاویلات اور فضول تشریحات سے کافر و مشرک

لائقِ تحسین انصاف و دانش مندی نہیں اور اِن سب کے باوجود جناب معاویہؓ کو دائرۂ صحابیت سے خارج کرنا یا دُور از کار تاویلات اور فضول تشریحات سے کافر و مشرک ثابت کرنا نہ صرف گناہِ عظیم ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق توہینِ صحابیتِ رسولِ کریم بھی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ از خود موجبِ کفر و الحاد ہے۔ ربُّ العزت ہمیں اہلِ بیتؓ اور صحابۂ کرامؓ دونوں سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس صحابی کا جو مرتبہ و مقام تھا ہمیں اس کی اُتنی ہی عزت و تکریم کرنے کی اہلیت و توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہی اسلام ہے، یہی اتباع ہے اور اِسی کا نام ایمان ہے۔

پیر نصیر الدین شاہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ کی توہین کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
توہین صحابی رسول ہے اور عظیم گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت دونوں سے محبت رکھنے کی توفیق
عطا فرمائے آمین اور جس صحابی کا جو بھی مرتبہ ہو اس کی عزت
و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کیونکہ یہی اسلام ہے یہی ایمان ہے اور یہی اتباع ہے



١٦٧

اللہِ وَرِضْوَاناً سِیْمَاھُمْ فِیْ وُجُوْھِھِمْ مِّنْ اَثَرِ
السُّجُوْدِ ذٰلِکَ مَثَلُھُمْ فِی التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُھُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ
کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی
سُوْقِهٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ ہ

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں جو تنگی اور فراخی میں غار میں اور ابدر کے
اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ، حضرت عمر بن الخطابؓ ہیں اور رُحَمَآءُ بَ
حضرت علیؓ ابن ابی طالب ہیں وَیَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللہِ وَرِضْ
حضرت زبیرؓ ہیں اور سِیْمَاھُمْ فِیْ وُجُوْھِھِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ سے
ابو عبیدہؓ بن الجراح (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) یہ دسوں حضرات ایسے
اَخْرَجَ شَطْاَهٗ میں شطأ (کھیتی کی سب سے پہلی نکلنے والی کونپل یا اکوا
سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول
رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اس سوئی یعنی رسول اللہ کی موٹائی (یعنی طاقت)

اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف ہے ان سے زبان کو روکا جائے (اس میں بحث و گفتگو نہ کی جائے) صحابہؓ کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل و محاسن کو بیان کرنا اور ان کے (باہمی اختلافی معاملے کو خدا کے سپرد کرنا واجب ہے جس طرح بھی ان کا وقوع ہوا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہؓ کے درمیان اختلاف واقع ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (اس اختلاف پر بحث نہ کرے اور زبان کو بند رکھے) ہر صحابی کی بزرگی اور فضیلت کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے



وشمسنا ★ ابدا علی افق العلی

غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
کی مشہور زمانہ تصنیف

الغنیۃ لطالب طریق الحق

مشہور بہ

غنیۃ الطالبین

کا

اردو ترجمہ

جس میں انداز بیاں کا لطف اور سلاست زبان کا کیف ہر ہر سطر میں موجود ہے
بہ تبویب و ترتیب خاص

از

ادیب شہیر حضرت شمس صدیقی بریلوی فاضل شرقیات

ارشد برادرس

۱۵۶۱ سیکنڈ فلور گلی کوتانہ۔ سوئیوالان۔ نئی دہلی ۲

رحمۃ اللہ علیہ

رضی اللہ عنہم اجمعین

حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اہلسنت کا اتفاق ہے جن باتوں میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے اُن سے زبان کو روکا جائے صحابہ کرام کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے ان کے فضائل و محاسن بیان کیئے جائیں اور ان کے معاملے خدا کے سپرد کرنا واجب ہے

امام ابوالشکور سالمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دعویٰ میں شبہ ہوگیا تھا وہ تاویل کرتے تھے



https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتے۔

بایں ہمہ (ان سب باتوں کے باوجود) ہم کہتے ہیں کہ باغی کی نہ ہم تکفیر کرتے ہیں نہ تفسیق اس دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا" یعنی دونوں گروہوں کو مومن فرمایا اور دو طائفے یہی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے لشکری ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "ان ابنی هذا سید سیصلح الله به بین الفئتین من المؤمنین" "یہ میرا بیٹا سردار ہے اور

ہم کہتے ہیں کہ باغی کی تفسیق نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کی شہادت بالاتفاق جائز ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ باغی اپنے دعویٰ میں ماؤل ہوتا ہے۔

باغی کسے کہتے ہیں؟

باغی کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنا حق طلب کرتا ہے شبہ کے ساتھ اور حضرت معاویہ کو اپنے دعویٰ میں شبہ ہوگیا تھا اور وہ تاویل کرتے تھے اور تاویل کرنے میں ان لوگوں نے خطاء کی اور ان کی خطاء کبیرہ گناہ نہیں حتیٰ کہ مرتکب کبیرہ کی تفسیق کی جائے یا تکفیر۔

پھر حضرت معاویہ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے متعلق ہم اس بات کا وہم بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دیدہ و دانستہ ایسے امر کے مرتکب ہوں، جو موجب فسق و کفر ہو باوجود یکہ یہ لوگ اہل دیانت اور صاحب فقہ و دانش تھے، پھر اس پر اصرار بھی کریں حالانکہ یہ سب عادل اور فقیہ و مجتہد تھے اور اس لیے بھی کہ باغی کی جانب سے ایام جمعہ، جماعت صلوٰت، حج اور تولیت قضاء وغیرہ کی ولایت جائز ہے، ثابت ہوا کہ وہ فاسق نہیں تھے۔

Click For More Books

https://ataunnabi.blogspot.com/

تمہید ابوشکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

دعا کا طلبگار
سمیر القادری
نعمان علی

تصنیف
امام اہل سنت علامہ ابوشکور محمد بن عبد السعید سالمی کشی

ترجمہ
مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ
ابوالبرکات سید احمد قادری
خلیفہ امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ

For More Books

امام کمال بن ابی شریف ابن الھمام فرماتے ہیں علی رضی اللہ
ومعاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں وہ تعالیٰ عنہم
اجتہاد پر مبنی تھی وہ حضرت عثمان کے قصاص اور اجمعین
قاتلین کو امیر معاویہ اور انکے ساتھی طلب کررہے تھے حضرت معاویہ کا جھگڑا خلافت کیلئے نہیں تھا



الله عنه لمعاوية ومن معه لما بينهما من بنوة العمومة (كان مبنيا على الاجتهاد) من كل منهما (لا منازعة من معاوية) رضى الله عنه (فى الامامة اذ ظن على) رضى الله عنه (أن تسليم قتلة عثمان) على الفور (مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى الى اضطراب أمر الامامة) العظمى التى بها انتظام كلمة أهل الاسلام (خصوصا فى بدايتها) قبل استحكام الامر فيها (فرأى التأخير) أى تأخير تسليمهم (أصوب الى أن يتحقق التمكن) منه (ويلتقطهم) أولا فأولا (فان بعضهم عزم على الخروج على على وقتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان على ما نقل فى القصة من كلام الاشتر النخعى ان صح) ذلك. (والله أعلم) أصحيح هو أم لا وقد كان الذين تمالؤا على قتل عثمان رضى الله عنه وحصره جموعا جمع من أهل مصر قيل انهم ألف وقيل سبعمائة وقيل خمسمائة وجمع من الكوفة وجمع من البصرة قدموا كلهم المدينة وجرى منهم ماجرى بل قد ورد انهم هم وعشائرهم نحو من عشرة آلاف فهذا هو الحامل لعلى رضى الله عنه على الكف عن التسليم (أو) أمر آخر وهو (أنه) يعنى عليا رضى الله عنه (رأى أنهم) أى قتلة عثمان رضى الله عنه (بغاة) جمع باغ (أتوا ما أتوا) من القتل (عن تأويل فاسد استحلوا به دم عثمان) رضى الله عنه (لانكارهم عليه أمورا ظنوا أنها مسوغة لما فعلوه

الله عنه لمعاوية ومن معه لما بينهما من بنوة العمومة (كان مبنيا على الاجتهاد)
من كل منهما (لا منازعة من معاوية) رضى الله عنه (فى الامامة اذ ظن على)
رضى الله عنه (أن تسليم قتلة عثمان) على الفور (مع كثرة عشائرهم واختلاطهم

(هو الاول لذهاب كثير) من العلماء رحمهم الله تعالى. (الى أن قتلة عثمان لم يكونوا

كتاب المسامرة

فى شرح المسايرة
للكمال بن أبى شريف بن الهمام
فى علم الكلام
مع حاشية زين الدين قاسم على المسايرة . مفصولة بجدول
المسامرة فى شرح المسايرة
وشرحه الشيخ
الجزء الأول والثانى

المكتبة الأزهرية للتراث
٩ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف

*و: بَشا، كَدَعَا: حَسُنَ خُلُقُهُ.

*و: بَصا، كَدَعَا: اسْتَقْصَى على غريمِهِ. والبِصَاءُ، بالكـ
استقصاءُ الخِصاء، وخَصاهُ اللَّهُ وبَصاهُ ولَصاهُ. ويُقـ
خَصِيٌّ بَصِيٌّ. وما في الرَّمادِ بَصْوَةٌ، أي: شَرَرَةٌ ولا جَمْـ
وبَصْوَةُ: ع.

*ي: بُضَى، كرُبَى وهُدًى: ة بِبِلادِ بَجِيلَةَ، أو وادٍ.

●ي: الباطِيَةُ: الناجُودُ. وحَكَى سِيبَوَيْهِ البِطْيَةَ، بالكسر،
عِلْمَ لي بِمَوْضُوعِها[1]، إلاَّ أنْ يكونَ أبْطَيْتُ: لُغَةً
أبْطَأتُ[2].

●و: بَظَا: لَحْمُهُ يَبْظُو بُظُوّاً: اكْتَنَزَ، وتَراكَبَ. والبُظـ
بالضم: لَحَماتٌ مُتَراكِباتٌ، وحَظِيَتِ المرأةُ وبَظِيَتْ: إتْبا

●و: البَعْوُ: الجِنايَةُ، والجُرْمُ، وقد بَعَى، كنَهَى ودَعَا ورَ
والعارِيَةُ، أو أنْ تَسْتَعِيرَ كَلْباً تَصِيدُ به، أو فَرَساً تُسابِقُ عـ
كـالاسْتِبْعاء. وأبْعاهُ فَرَساً: أخْبَلَهُ. وبعاهُ بَعْواً: قَمَـ
وأصابَ منه، وـبالعينِ: أصابَهُ بها، و-عليهم شَرّاً: ساقَهُ

●و: بَغَا الشيءَ بَغْواً: نَظَرَ إليه كَيْفَ هو. والبَغْوُ: ما يَـ
من شَجَرِ العُرْفُطِ[3] والسَّلَم. والبَغْوَةُ: الطَّلْعَةُ تَنْشَقُّ فَتَـ
بَيْضاء، والثَّمَرَةُ قبلَ نِضاجِها. وبَغْوانُ: ة بِنَيْسابورَ
والبَغَوِيُّ: الحُسَيْنُ بنُ مَسْعُودٍ الفَرّاءُ، منسوبٌ إلى بَغْشُـ
وذُكِرَ.

●ي: بَغَيْتُهُ: سَمْهُنَّ، وبِغْيَةً،
بالكسر: طَلَـ بُغْيَتُهُ. والبَغِيَّةُ،
كَرَضِيَّةٍ: ما ا الضم، والضالَّةُ
المَبْغِيَّةُ: وأبْـ إيّاهُ، كَرَماهُ، أو
أعانَهُ على طَلَبِهِ. واسْتَبْغَى القو بَغَوْهُ، و-له: طَلَبُوا له.



القاموس المحيط

تأليف
العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي
(المتوفى سنة ٨١٧ هـ)

تحقيق
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

بإشراف
محمد نعيم العرقسوسي

طبعة ثانية منقحة مفهرسة

مؤسسة الرسالة

دعاگو
سمیر القادری
نعمان علی

واستبقاه: استحياه، و- من الشيء: ترك بعضه. وبقي بن
مَخْلِدٍ، كَرَضِيٍّ: حافظُ الأنْدَلُسِ. وبَقِيَّةُ: مُحَدِّثٌ ضعيفٌ.
وبقيَّةُ وبَقاءُ: اسْمانِ. وأبْقَيْتُ ما بَيْنَنا: لم أُبالِغْ في إفْسادِهِ،
والاسْمُ: البَقِيَّةُ. و﴿أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عن الفَسادِ﴾[10]، أي:
إبْقاء، أو فَهْم. وبقاهُ بَقْياً: رَصَدَهُ، أو نَظَرَ إليه، واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ.

لفظ باغی کا اطلاق

امام الفیروز آبادی 817ھ نے لفظ باغی کے بہت سے معنٰی بیان کیئے جس میں ایک لفظ طلب کرنا بھی ہے(یعنی جیسے معاویہ نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا)

رضی اللہ تعالیٰ عنہم

امیر معاویہ مجہتد تھے اس وجہ سے یہاں پر یہی معنٰی مراد لیا جائے گا... اور لفظ باغی کا اطلاق صرف امام حسن کی صلح تک محدود ہے

رضی اللہ عنہم




تعالی قوت والا، غالب ہے۔ اور امام سمانی رضی اللہ عنہ اپنے ایک قدیم رسالے میں فرماتے ہ

ہم پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کی آراء ہمارے نزدیک ہمارے نفسوں کے لئے ہماری آراء سے

چوالیسویں بحث

مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق


چوالیسویں بحث

مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق

یہ بیان کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کے متعلق لب کشائی سے رکنا واجب ہے اور یہ اعتقاد واجب ہے کہ وہ سب اجر پانیوالے ہیں۔

اور یہ اس لئے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ سب عادل ہیں۔ برابر ہے کہ کوئی فتنوں میں ملوث ہوا یا نہیں ہوا۔ جیسے حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور واقعہ جمل کے دور کا فتنہ۔ اور یہ سب کچھ واجب ہے کہ ان کے متعلق حسن ظن کے وجوب اور انہیں اس بارے میں اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے۔ کیونکہ ان امور کی بنیاد اسی پر ہے۔ اور ہر مجتہد درست ہے یا درست ایک ہے اور خطا کرنیوالا معذور بلکہ ماجور ہے۔


عدالت صحابہ کرام کا مفہوم

ابن الانباری نے کہا کہ ان کی عدالت سے مراد ان کے لئے عصمت کا ثبوت اور ان سے عصمت کا محال ہونا نہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ اسباب عدالت کی بحث اور ان کے تزکیہ کی طلب کے تکلف کے بغیر ہمارے دین کے احکام کے متعلق ہمارے لئے ان کی روایات قبول ہیں۔ اور بحمدہ وتعالی آج تک ہمیں ایسی کسی چیز کا ثبوت نہیں ملا جو ان کی عدالت کو مجروح کرے۔ پس ہم اسی کو لازم کرتے ہیں جس پر کہ یہ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں تھے۔ یہاں تک کہ اس کے خلاف ثابت ہو۔ اور بعض اہل سیر جو کچھ ذکر کرتے ہیں لائق التفات نہیں۔ کیونکہ یہ صحیح نہیں۔ اور اگر صحیح ہے تو اس کی کوئی صحیح تاویل ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہلسنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں۔ برابر ہے کہ کوئی بھی فتنوں میں ملوث ہوا جیسں حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور دور جمل۔ اور واجب ہے کہ ان پر حسن ظن رکھا جائے اور انہیں اس بارے میں اجتہاد پر محمول کرتے ہوئے ایسا ضروری ہے کیونکہ ان کی بنیاد ان ہی امور پر ہے اور ہر مجتہد درست ہے یا پھر ایک درست ہے اور خطا کرنے والا معزور بلکہ ماجور ہے